—, Area of	منطقے کا رقبہ
—, Axis	منطقی محور
— crystal	منطقی قلم
—, Interfacial	بین رخی منطقہ
— levelling	منطقائی تسطیح
—, North frigid	منطقہ باردہ شمالی
—, North temperate	منطقہ معتدلہ شمالی
— of sphere	منطقہ کرہ
— plate	حلقہدار تختی - منطقائی تختی
—, South frigid	منطقہ باردہ جنوبی
—, South temperate	منطقہ معتدلہ جنوبی
—, Torrid	منطقہ حارہ
Zoned	منطقہ دار
Zones, Fresnels	فرسنل منطقے
Zones of audibility	سماعت کے منطقے
Zones of silence	خاموشی کے منطقے
Zoomar	زومار (عدسہ)
Zoom	زوم
Zoo magnetism	حیوانی مقناطیسیت
Zoo machanics	حیوانی میکانیات
Zooming	زومانا
Zoom lens	زوم عدسہ
Zosma (Zozma, Zozoa,or Leonis)	زہرہ-ظہرالاسد
Zuban-Al-chemali (Librae)	الزبان الشمالی
Zuban-Al-Genubi (or Kiffa Australis)	الزبان
Zuban-Al-Akravi	الزبان العقربی
Zubra	زبرہ (صورت اسد کا ستارہ)
Zwitterion	مشفی (مثبت+منفی) رواں

— reading	صفری خواندگی
— shift	صفری ہٹاؤ
— stability	صفری پائیداری
— valent	صفر گرفتہ
Zeroing table	صفری جدول
Zeta potential	زیٹا قوہ
Zirconium	زرکونیم
Zig-Zag connexion	ٹیڑھا میڑھا ملاپ
— leakage	ٹیڑھا میڑھا رِساو
— line	لہری خط۔ ٹیڑھا میڑھا خط
— rectifier	ٹیڑھا میڑھا راست گر
— reflections	لہری انعکاس
Zinc	جست
Zitterbewegung	کانپچال (کانپ + چال)
Zodiac	منطقۂ البروج
Zodiac , Signs of	بروج
—, Autumn	بروج خریفی
—, Spring	بروج ربیعی
—, Summer	بروج صیفی
Zodiacal	بروجی
— belt	منطقۃ البروج
— light	بروجی روشنی
Zoetrope	چرخ مدات
Zonal abberation	منطقائی انحراف
— harmonic	منطقائی ہم آہنگ
Zone	حلقہ ۔ منطقہ
—, Altitude of	منطقے کی بلندی

— , True	حقیقی راس
Zenithal	سمت الراسی
— projection	سمت الراسی تظلیل - راسی تظلیل
Zephyr	باد مغرب - پچھوا
Zepp antenna	زپ محسسہ
Zero	صفر
— , Absolute	مطلق صفر
— beat reception	صفری ضربی وصول
— branch	صفری شاخ
— circle	صفری دائرہ
— division	نشان صفر
—, Dvision by	صفر سے تقسیم
—, Factorial	حروضربی صفر
— ,Geodesic	ارض پیمائی صفر
— line	صفری خط
— line gap	صفری خط خلل
— method	صفری طریقہ
— of a function	تفاعل کا صفر
— phase sequence	صفر ہئیتی تسلسل
— point energy	صفر نقطی توانائی
— entropy	صفر نقطہ ناکارگی
— points (of Meridian Circle)	نقاط صفر (دائرہ نصف النہار کے)
— potential	صفر قوہ
—power-level	صفر طاقت سطح

Z

Z (Atomic number)	زیڈ (جوہری عدد)
Z-axis	زیڈ - محور
Zaffer	رنگ مینا
Zaurac (-k) or Eridani	زورق
Zavijava	زاویہ العوا
Z. Chromosome	زیڈ لونیہ یا لون جسم
Zeeman effect	زیمان اثر - زیمن اثر
Zener current	زینر رو
Zener voltage	زینر وولٹاج
Zenith	راس - سمت الراس
— Apparent	ظاہری سمت الراس - مرئی سمت الراس
— Astronomical	ہئیتی راس
— distance	راسی فاصلہ
— — of a star	ستارے کا راسی فاصلہ
—, Geocentric	ارض مرکزی راس
— of an observer	مشاہد کا راس
— sector	راسی قطاع
— telescope	راسی دوربین

—, Planetary	سال سیاری
—, Platonic (Perfect or Great)	سال افلاطونی
—, Sidereal	سال نجمی (کوکبی)
—, Simple	سال بسیط
—, Solar (or Astronomical)	سال شمسی یا فلکی
—, Synodic	سال قمری
Yed (Ophinchi)	ید
Yield Point	مطاوعیت کا نقطہ
Yoke	جوا
Yoke, Bar and	جوا ڈنڈا
Youngs Modulus	ینگ کا مقیاس
Y-Plate	ما تختی
Yukawa potential	یوکاوا قوہ

Y

Y - axis	ما محور
Yard	گز
Year	سال - برس
—, Annomalistic	سال شمسی اوجی
—, Astral	سال نجمی (ثوابتی)
—, Astronomical	سال شمسی
—, Bissestile	سال کبیسه یا عبور
—, Civil	سال مدنی
—, Common	سال معمول
—, Eclipse	سال کسوفی
—, Equinoctical	سال اعتدالی
—, Fictition	سال جعلی
—, Gregorian	سال گریگری
—, Julian	سال قیصری
—, Leap	سال کبیسه
—, Light	نور سال
—, Lunar	سال قمری
—, Muslim	سال هجری
—, Natural	سال طبیعی

X

X - axis	لامحور
Xanthogenic radiation	زردآوری اشعاع
Xiphias (Dorado)	سمکہ - سیاف - سین الجبار
X - rays	لاشعاعیں
X - ray Spectrum	لاشعاعی طیف
Xylophone	زائلوفون

Wireless apparatus	آلہ لاسلکی
— message	لاسلکی تار - لاسلکی خبر
— signal	لاسلکی اشارہ
— telegraph	لاسلکی تلگراف
— telegraphy	لاسلکی پیام رسانی
Wood engravings	چوبی کندہ کاری
Work	کام - کار
—, Unit of	کام کی اکائی
—, External	بیرونی کام
—, Internal	اندرونی کام
— function	کام کا تفاعل
Working	عمل
— Hypothesis	(کام چلاؤ) سرسری مفروضہ
— standard	عملی معیار
— substance	کام کی چیز
Works	کارخانہ - تعمیرات
Workshop	صنعت گاہ - کارخانہ
World Curvature	عالم کا انحنا
Worm Wheel	ناگ پہیا - چرخ پیچ
Wrench	رنچ - سنسی

Winding	پیچواں ۔ پیچدار ۔ موڑ ۔چکر
— machine	لپیٹ کل
Wind Mill	ہوائی چکی
— pump	پون پمپ
Winding Stair Case	پیچ نما سیڑھی
Wind tight	ہوا بند
— tunnel	سرنگ باد ۔ ہوا سرنگ
Windlass	چرخ دستہ ۔ ڈنڈا چرخ
Window	دریچہ کھڑکی
Windy	ہوا دار ۔ طوفانی
Winter	شتا ۔ سرما
— Solstice	انقلاب شتوی
— Signs	بروج شتویہ
— (Capricornis)	بروج شتویہ (جدی)
— (Aquarıs)	بروج شتویہ (دلو)
— (Pisces)	بروج شتویہ (حوت)
Wire	سلک ۔ تار
— bridge	تار پل
Wire cutter	تارکٹ
Wired wireless	تاروں ملا لاسلکی
Wire drawer	تارکش
Wire guage	تار پیما
— guaze	تار کی جالی
Wire-indicator	تار نما
Wireless	لا سلکی ۔ بے تار

Welkin	آسمان ۔ اکاش
Welt	کائنات ۔ دنیا
Westering	مغرب رخی
Wet and Dry bulb	ترو خشک جوف
—thermometer	تپش پیما
Wet steam	مرطوب بھاپ
Wezen	ورن ۔ (ستارہ)
Wheatstone Bridge	وھیٹسٹون پل
Wheel	چرخ ۔ دہیہ
— and Axle	چرخ اور محور
— barrow	ٹھیلا
— gearing	چرخ گراری
Whirling Circle	گھوم چکر
— table	گھوم میز
Whistle	سیٹی
White	سفید
— Dwarfts	سفید صغیرات ۔ سفید بونے (ستارے)
— hot	سفید گرم
— light	سفید نور
Whole number	صحیح عدد
Wide angle lens	وسیع زاویہ عدسہ
Width	وسعت ۔ چوڑائی
Willo leaves	برگ بید
Wimshurt machine	ومشرٹ کی مشین ۔ امالی مشین
Wind	تیز ھوا ۔ چلتی ھوا

Wave trap	دام موج - موج پھندا
— trace	موجی نشان
— ,Transverse	عرضی موج
— velocity	رفتار موج
Wavy	لہردار - موجی
Waxing	بڑھاؤ - بڑھتا
— of the moon	تزائدالقمر - چاند کا بڑھنا
— Moon	بڑھنے والا چاند - بڑھتا چاند
Wedgy	پچر - فانہ
Wedge contact	فانوی تماس -فانہشکل
Wedge form	فانہ نما
Wedge guage	فانہ پیما
Wedge , Measuring	ناپ فانہ
Wedge Photometer	فانہ دار ضیا پیما
Wedge shaped	فانہ شکل
Wedge , Spherical	مدور فانہ
Wedge system	فانوی نظام
Wednesday	یوم‌الاربعہ - چہار شنبہ
Week	ہفتہ
Week-end	ختم ہفتہ
Weight	وزن
—box	باٹوں کا ڈبہ
Weight, Box of	باٹوں کا ڈبہ
— Thermometer	وزن تپش پیما
Welding	تپا جوڑائی - ویلڈ کرنا - ٹانکالگانا

Watt hour	واٹ ساعت ۔ ویٹ ساعت
Watt hour meter	واٹ ساعت پیما ۔ ویٹ ساعت پیما
Wattless	بے واٹ ۔ بے ویٹ رو
— Current	بے واٹ رو ۔ بے ویٹ رو
Wattmeter	واٹ پیما ۔ ویٹ پیما
Wave	موج
— aerial	ہوائیہ موج ۔ سمتی ہوائیہ
— antenna	موجی محسہ
— angle	زاویہ موج
— bond	موجی بند
— curve	موجی منحنی
— form	موج شکل
— front	محاذ موج
— Guide	رہبر موج
— of light	موج نور
Wavelet	موجک ۔ موج صغیر
Wave length	طول موج
—, Longitudinal	طولی موج
Wave mechanics	موجی میکانیات
Wavemeter	موج پیما
Wave motion	موج حرکت ۔ موجی حرکت
— number	عدد موج
— theory	نظریہ تموج
— theory of light	نظریہ تموج نور
— train	سلسلہ امواج

— cooling	آبی سردائی
— equivalent	آب مساوی
— fall	آبشار
— guage	آبی پیمانہ - اب پیمانہ
— High	مد کامل
Water lens	عدسہ آب
Water line	خط آب
— line area	آب خط رقبہ
—, Low	جذر کامل
— power	آبی طاقت
— —station	آبی طاقت کا اسٹیشن
Water pump	آبی پمپ - عام پمپ
Water rheostat	آبی رو قرار
Waterscope	منظر بحری - آب نما
Water Sided Ship	دیوار پہلو جہاز
Water thermometer	آبی تپش پیما
Water tight	آب بند
— trap	آب گیر - پانی پھندا
— turbine	پن تربین - چرخاب
— vapours	آبی بخارات
Water voltameter	(آبی) کیمیائی برق پیما
Water Wheel	پن چکر
Watt	واٹ - ویٹ
Wattage	واٹیج - ویٹیج
Watt balance	واٹ میزان - ویٹ میزان

W

Wagon (See Ursa Major)	دُب اکبر
Wagoner	دب اکبر
Wain , The	دب اکبر
Wandering Star	سیارہ
Wanderplug	متحرک ڈاٹ
Wane	گھٹاؤ
Waning	گھٹاؤ
— of the moon	محاق القمر - چاند کا گھٹنا
—moon	گھٹنے والا چاند
Warbler	نعمیہ
Warbling Carrier System	نعمی حامل نظام
Warm	ہلکا گرم - نیم گرم
Warp	اینٹھن - تانا (بُنائی کا)
Warping	موڑنا - اینٹھنا
Wasat (or Geminorium)	وسط (کا مخرب)
Water barometer	آبی دار پیما
— bath	پن حمتر
— bearer	دلو - کمبھ
— carrier	دلو - ساکب الما

Volume table	جدول حجم
Volumeter	حجم پیما
Volumetric	حجم پیما
Volumetry	حجم پیمائی
Volume unit	حجمی اکائی
Vortex	دوار - ورطہ - بھنور
— filament	دوار ریشہ - ورطہ ریشہ
— line	دوار خط - ورطہ خط
— motion	دوار حرکت - بھنور چال - ورطانی حرکت
— ring	دوار حلقہ - ورطہ حلقہ
— stationary	ساکن دوار - ساکن ورطہ
— tube	ورطہ نلی - دوار نلی
Vortical	دواری - ورطانی
— field	دواری میدان - ورطانی میدان
Vorticity	دواریت
Vowel articulation	حروف علت کی گویائی
Vox	صوت - آواز
Vulcan	ولکن (ایک سیارہ)
Vulgar fraction	کسر عام
Vulpecula (Fox)	ثعلب - ایک شمالی صورت
Vulpeculet Anser	ثعلب و بط (ایک شمالی صورت)
Vultures (the two)	نسرین(یعنی نسر طائر و نسر واقع)

Voltage, Starting	آغازی وولٹاج
Voltage time base	وولٹاجی وقتی اساس
Voltage transformer	وولٹاج بدل گر
Volta Law	وولٹائی قانون
Voltameter	وولٹ پیما
Volt ammeter	وولٹ امپیر پیما - وولٹائی امپیما
Voltamperes	وولٹامپیر (واٹ)
Voltas pile	وولٹائی تودہ
Volterra equation	وولٹیرا مساوات
Voltmeter , corona	حاشیائی وولٹ پیما
Voltmeter, Electro dymanic	برقی حرکیاتی وولٹ پیما
Voltameter, Inverted	معکوس وولٹ پیما
Voltameter, Moving iron	متحرک آہن وولٹ پیما
Voltameter peak-to-peak	فرازی فراز وولٹ پیما
Volume (V)	حجم (ح)
Volume control	حجم ضابط - حجم انضباط
Volume elasticity	حجمی لچک
Volume expander	حجم توسیعی - حجم پھیلاؤ
Volume-limiting amplifier	حجم تحدیدی افزودگر
Volume, Molecular	سالمی حجم
Volumenometer	حجم پیما
Volumenometry	حجم پیمائی
Volume reference	حجم حوالہ
Volume standard	حجمی معیار

Volta box	وولٹا بکس
Volt , Absolute	مطلق وولٹ
Volta effect	وولٹا اثر
Volta electrometer	کیمیائی رو پیما
Voltage	وولٹیج - وولٹاج (مقدار وولٹ)
Voltage , Active	عامل وولٹیج - عامل وولٹاج
Voltage amplification	وولٹاجی افزوں گری
Voltage amplifier	وولٹاجی افزوں گر
Voltage attenuation	وولٹاجی تخفیف
Voltage circuit	وولٹاجی دور
Voltage , Decomposition (Discharge potential)	تحلیلی وولٹاج (اخراجی قوہ)
Voltage divider	وولٹاج تقسیم کنندہ
Voltage doubler	وولٹاج مضاعفی
Voltage drop	وولٹاجی گراؤ
Voltage feedback	وولٹاجی پس افزائش - وولٹاجی پس کھپلاو
Voltage feed back (ratio transister)	وولٹاجی پس افزائشی (نسبتی ٹرانزسٹر)
Voltage gain equation	وولٹاج نفع مساوات
Voltage ratio	وولٹاجی نسبت
Voltage regulation	وولٹاجی انضباط
Voltage regulator tube	وولٹاج انضباتی نلی
Voltage inverse peak	وولٹاج معکوس چوٹی
Voltage stabilizing circuit	وولٹاج قائم دور

Vitali set	ویٹالی دستہ (سٹ)
Vital statistics	شماریات زندگی ۔ شماریات حیات
Vita phone	فلم ناطق ۔ ویٹافون
Vitascope	حیات نما ۔ گردش نما
Vitreous	شفاف ۔ شیشہ سا ۔ زجاجی
Vitreous electricity	مثبت برق
Vitreous humour	شیشی رطوبت ۔ زجاجی رطوبت
Vitreous state	زجاجی حالت
VLF (Abbreviation for very low frequency)	ب پ ت (بہت پست تعدد کا مخفف)
Vocal	گفتاری ۔ ناطق ۔ نطقی
Vocal tone recorder	نطقی سُرتی نگار
Vocoder	صدا رمزکار (رمزگر)
Voice	صدا ۔ صوت – انسانی آواز
Voice coil	صدا لچھا
Voice frequency	صوتی تعدد ۔ صدا تعدد
Voice mechanism	صوتی میکانیت ۔ صدائی میکانیت
Void	خالی ۔ خلا
Voidness	خلا
Volans	سمکۂ طائرہ
Volatile	طیران پذیر ۔ پرّاں
Volatility	طیران پذیری
Volatilisation	طیران
Volt	وولٹ (اکائی)
Volta	وولٹا

Vision, Binocular	دو چشمی رویت
Vision, Centre of	مرکز رویت
Vision, Distinct	واضح رویت
Vision, Field of	میدان نظر - حلقہ نظر
Vision frequency	رویتی تعدد
Vision, Persistence of	رویت کا قرار
Vision, Reflected	انعکاسی رویت
Vision, Refracted	رویت انعطافی
Vis mortua	مردہ قوت - مخفی توانائی
Vis motiva	قوت محرکہ
Visual	رویتی - رویت کا - بصری
Visual acuity	بصری تیزی
Visual aids	بصری وسائل امدادین
Visual angle	نظری زاویہ - بصری زاویہ
Visual axis	نظری محور - بصری محور
Visualfatigue	بصری تکان (امدادین)
Visual field	دائرہ نظر - میدان نظر
Visual line	نظری خط - نظری محور
Visual point	نقطہ نظر - نظری نقطہ
Visual rays	بصری شعاعیں - مرئی شعاعیں
Visual transmitter	مرئی مرسل
Visual transmitter power	مرئی مرسل طاقت
Vis viva	حرکی توانائی - زندہ قوت
Vitali covering	ویٹالی پوشش
Vitali covering theorem	ویٹالی پوشش مسئلہ

Viscosimeter	لزوجت پیما
Viscosity	لزوجت
—, Coefficient of	لزوجت کی شرح (یا سر)
Viscosity , kinematic	حرکی ہندسی لزوجت
Viscosity manometer	لزوجی داب پیما
—, Intrinsic	ذاتی لزوجت
—, Specific	نوعی لزوجت
—, Units of	لزوجت کی اکائیاں
Viscous	لزج
— flow	لزجی دھاؤ
Visibility	رویت - ظہور - مرئیت
— coefficient	شرح رویت
— factor	رویتی جز
— function	رویتی تفاعل
Visible	رویت پذیر - مرئی
— speech	مرئی تقریر
— horizon	افق مرئی
Visible motion	حرکت مرئی
Visibleness	مرئیت
Visible radiation	اشعاع مرئی
Visible	بصری - بصریہ
Vis inertiae	قوت جمود - جمود
Visiogenic	قابل دور نمائی
Vision	رویت - بصارت - بینائی
Vision arc	قوس نظری

— or Porrima	موخرالقطاف
— or Vindemiatrix	مقدم القطاف
Virgo	عذرا ۔ سبلہ ۔ کنیا
Virial	سکت
— coeffieient	سکتی شرح (سر)
— expansion	سکتی پھیلاؤ
— law	سکتی قانون
Virtual	مجازی
— entropy	مجازی ناکارگی
— cathode	مجازی منفیرہ
— focus	مجازی ماسکہ
— height	مجازی بلندی
— image	مجازی شبیہ ۔ مجازی خیال
— level , virtual state	مجازی سطح ۔ مجازی حالت
— process	مجازی عمل
— quantum	مجازی قدریہ ۔ مجازی کوانٹم
— Value	مجازی مقدار ۔ جذر ۔ اوسط مربع
— Velocity	موہوم رفتار ۔ مجازی رفتار
— work	موہوم کام ۔ مجازی کام
— work principle	مجازی کام کا اصول
Viscid	لیسدار ۔ چپچپا ۔ لزج
Viscidity	لزوجت
Viscometer	لزوجت پیما
Viscometery	لزوجت پیمائی
Viscose	لزج مائع ۔ وسکوز

Video	ویڈیو - بصری
— frequency	بصری تعدد - ویڈیو تعدد
— — amplifier	بصری تعددی افزوں گر - ویڈیو تعددی افزوں گر
Videotron	ویڈیو ٹرون
Video singal	ویڈیو اشارے - بصری اشارے
View	نظارہ - منظر
—, Angle of	منظر کا زاویہ
—, Field of	منظر کا میدان
— finder	منظر نما - منظر کوش
Viewer	ناظر - منظر نما
Villari effect	ویلاری اثر
— reversal	ویلاری الٹاؤ
Vignetting effect	وینیٹی اثر
Vinculum	مجموعہ
Vindemiatrix (or Virgins)	(صورت) المریدین
Violent Storm	طوفان شدید
Violescent	ہلکا بنفشی
Violet	بنفشی
— (colour)	بنفشی رنگ
Violin	ولایتی سارنگی - وائلن - ویلا
Virgin (Virgo)	العذرا - سنبلہ
Virginium	ورجینیئم - ورانسیم (عنصر)
Virgins(or Spica Azimeck)	سماک اعزال-الف عذرا
— or Zavijava	ب عذرا

—, Fundamental mode of	ارتعاش کا بنیادی انداز
— Galvanometer	ارتعاشی گلون پیما
— meter	ارتعاش پیما
— numbers	ارتعاشی اعداد
—, Normal mode of	ارتعاش کا طبعی انداز
—, Plane of	ارتعاش کا مستوی
— rotation spectrum	ارتعاشی گردشی طیف
Vibrational partition function	ارتعاشی تقسیمی تفاعل
— sum rule	ارتعاشی جمع کا اصول
Vibratiuncle	ارتعاش خفیف
Vibrative	ارتعاشی ۔ ارتعاش انگیز
Vibrator	ارتعاش کار
Vibratory	ارتعاش
— motion	ارتعاشی حرکت
Vibrating body	مرتعش جسم
— string	مرتعش تار
Vibration	ارتعاشی
Vibrograph	ارتعاش نگار
Vibroscope	ارتعاش نما
Vibrotron	وائبروٹرون (ایک طرح کا صمام)
Vicinage	قرب و جوار
Vicinal face	قریبی رخ
Vicinity	قرب
Victor Meyer apparatus	وکٹر میئر کا آلہ

Verticity	گردیشیت - راسیت
Very high frequency	بہت بلند تعدد
Very low frequency	بہت پست تعدد
Vesper	شام کا ستارہ (زہرا)
Vespertine	شامی
Vesta	ویسٹا (ایک حدید سیارچہ)
Vestigial sideband	باقیاتی اطرافی پٹی
— — transmission	باقیاتی اطرافی پٹی ترسیل
— — transmitter	باقیاتی اطرافی پٹی مرسل
V F O (Abbreviation for variable frequency oscillator)	م ت ح (متغیر تعددی جھولیا کا مخفف)
V H F — — (Very high frequency)	ب ب ت (بہت بلند تعدد کا مخفف)
Via lactea	کہکشاں
Vial , Leyden	لیڈنی مرتباں
Vibratility	ارتعاش پذیری
Vibrating body	مرتعش جسم
— contactor	ارتعاشی تماس گر (مشاس)
— string	مرتعش تار (یا ڈوری)
Vibration	ارتعاش
—, Amplitude of	حیطہ ارتعاش
— damper	ارتعاش قاصر (مدھم کار)
—, Forced	جبری ارتعاش
—, Free	آزاد ارتعاش
— frequency	ارتعاشی تعدد

Vernal (Equinox)	(اعتدال) ربیعی
— point	ربیعی نقطه
—, signs	بروج ربیعی
Vernier, The	وریا ـ کسر پیما
— Callipers	وریا سرل چاپ
—, Direct	راست کسر پیما
—, Retrograde	رجعی کسر پیما
— scale	وریا پیماس
Versed	سہم ـ معکوس
— cosine	سہمی جیب التمام
— sine	سہمی جیب
Versin	سہمی جیب
Vertex	راس
— of an angle	راس الزاویہ
Vertices	روس (جمع)
Vertical	انتصابی ـ عمودی ـ راسی
— (circles or Azimuth)	انتصادی زاویے یا السمت
— angle	انتصابی زاویہ
— axis	انتصابی محور
— plane	انتصابی مستوی
— pointer	انتصابی نمائندہ
ertical, Prime	دائرہ اول السمت
erticality	انتصابیت
ertically	عمودی تقطیب شدہ موج-
polarized wave	انتصابی مقطب موج

Velocity, Peak angular	چوٹی کی زاویئی رفتار
— potential	رفتاری قوہ
—,—, of sound	آواز کی رفتاری قوہ
—, Relative	اضافی رفتار
—, Resonance	گمکی رفتار
—,Root mean square (of a system)	اوسط مربع رفتار کا جذر (کسی نظام کا)
—, Spin	گردشی رفتار - گھوم رفتار
—, Terminal	حدی رفتار
—, Uniform	یکساں رفتار
—, Units of	رفتار کی اکائیاں
—, Variable	تغیر پذیر یا متغیر رفتار
— variation	رفتاری تغیر
Vena contracta	تنگ دھار (کسی مائع کا)
Vent explosion	دھماکا دھانہ
Ventilated motor	ہوا کشہ موٹر
Ventilating fan	ہوا کش پنکھا
Ventilation	بادکشی - ہوا کشی
Ventilator	بادکش - ہوا کش
Venturimeter	وینٹوری پیما
Venturi tube	وینٹوری نلی
Venus	زہرہ - ناہید
Verdet constant	وردے مستقل
Vergency	انحراویت (تقارب اور تباعد کا ایک پیمانہ
Verification	تصدیق

Vectors, Parallelogrom of	سمتیوں کا متوازی الاضلاع
Vega (or a Lyrae)	نسر واقع
Vela	شراع - بادباں
Velocimeter	رفتار پیما
Velocities , Addition of	رفتاروں کی جمع
Velocity	رفتار
—, Absolute	مطلق رفتار
—, Angular	زاویائی رفتار
—, Average	اوسط رفتار
—, Coefficient of	رفتار کی شرح (یا سر)
—, Constant (or uniform)	مستقل (یایکساں) رفتار
—, Curvilinear	منحنی رفتار
— diagram	رفتاری نقشہ
— gradient	رفتاری تدرج
—, Instantaneous	آنی رفتار - فوری رفتار
—, — angular	آنی زاویائی رفتار
—, Linear	طولی رفتار
—, Maximum	اعظم رفتار
—, Precessional	استقبالی رفتار
—, Profile	نیم رخ رفتار
—, Modulated beam	کمبیشہ موج رفتار
— modulation	رفتار کی کمبیشی
— of projection	پیش اندازی کی رفتار-تطلیل کی رفتار
—, — oscillator	کمبیشہ جھولیا رفتار
— ,Peak	چوٹی کی رفتار - اعظم ترین رفتار

Vector, Covariant	ہم متغیرہ سمتیہ
—, Dominant	غالب سمتیہ
— field	سمتی میدان ۔ سمتیہ کا میدان
— —, Contravariant	ضد متغیرہ سمتی میدان
— —, Covariant	ہم متغیرہ سمتی میدان
— flux	سمتی بہاؤ - سمتی سیل
— function	سمتی تفاعل
—, Integral	تکملی سمتیہ
—, Irrotational	غیر گردشی سمتیہ
— notation	سمتی علامات
— product	سمتی حاصل ضرب
—, Radius	نیم قطری سمتیہ
—, Solenoidal	پیچواں سمتیہ
— space	سمتی مکاں
—, Normed	موالی سمتیہ
— space, Real	حقیقی سمتی مکاں
— —, Topological	مقامیاتی سمتی مکاں
— system, Reciprocal	متکافی سمتی نظام ۔ حوالی سمتی نظام ۔ مقلوب سمتی نظام
—, Terminus of	سمتیہ کا منتہا
—, Unit	اکائی سمتیہ
Vectorial	سمتی
— angle	سمتی زاویہ
Vectors	سمتیے
—, orthogonal	علی القوائم سمتیے

Variation, Direct	راست انحراف - راست تغیر
—, Inverse	معکوس تبدیلی - (تغیر)
—, Joint	شریک تبدیلی (تغیر)
—, Magnetic	مقناطیسی تبدیلی (انحراف)
— of a function	تفاعل کی تبدیلی
— of the compass	قطب نما کا انحراف (تغیر)
—, Periodic	دوری تغیر (یا تبدیلی)
—, Secular	قرنی تبدیلی
Variational method	تغیری طریقہ
— plate resistance	تغیری تحتی مزاحمت
Varies inversely	اس میں تغیر معکوس ہوتا ہے-
	متغیر معکوس ہے
Variocoupler	بدل جفت گر
Variometer	تغیر پیما
Vary	بدلنا
Varying quantities	متغیر مقادیر - بدلتی مقداریں
Vaster	وسطار
Vcephii	قیقاوس
Vector	سمتیہ - سمتی
—, Absolute value of a	سمتیہ کی مطلق قدر
—, Addition	سمتی جمع - جمعی سمتیہ
— analysis	تشریحات سمتیہ - سمتی تشریح
—, Axial	محوری سمتیہ
—, Component of	سمتیہ کا تکمیلی جزو
—, Contravariant	ضد متغیرہ سمتیہ

Variable immersion Hydrometer	متغیر اغراقی مائع پیما
— impedance tube	متغیر معاوقتی نلی
—, Independent	آزاد متغیرہ - آزاد متغیر
— microphone	تغیر پذیر مائکروفون
— nebulae	متغیر سحابئے
— pressure	تغیر پذیر دباؤ - متغیر دباؤ
— quantities	مقادیر متغیرہ - متغیرہ مقداریں
— reluctance cartridge	متغیر تامِلی کارتوس
— resistance	متغیر مزاحمت - تغیر پذیر مزاحمت
— stars	متغیرہ ستارے
— star clusters	متغیر کوکبی خوشے
Variance	معائرت - تغیر
—, Analysis of	معائرت کا تجزیہ - تغیر کا تجزیہ
—, Co	ہم معائرت - ہم متغیرہ
— ratio	معائرتی نسبت
—, Secular	قرنی معائرت
Variant	مغائر
Variate	معائر
Variation	تغیر - تبدیلی - اختلاف - انحراف
—, Annual	سالانہ تبدیل
—, The Lunar	قمری تبدیل
—, Calculus of	احصاء تغیر - احصاء تبدیلی
—, Coefficient of	تبدیلی کی شرح - تغیر کی شرح
—, Combined	مجموعی تبدیلی

Vane anemometer	پنکھ باد پیما
— radiometer	پنکھ شعاع پیما
Vanish	غائب ہونا
Vanishing	متعدم - غائب ہونے والا
— fraction	متعدم کسر
— line	متعدم خط
— point	متعدم نقطہ
Van't Hoff Equation	وانٹ ہوف مساوات
— — Factor	وانٹ ہوف جز
— — Law	وانٹ ہوف کا قانون
Vapograph	تبخیر نگار
Vapor	بخار
Vaporable	بخار پذیر
Vaporific	تبخیری - دخارات زا
Vaporiform	بخار شکل
Vaporimeter	بخار پیما
Vaporisation	تبخیر
Vapour density	بخاری کثافت
— pressure	بخاری دباؤ
— saturation	بخاری سیری
— tension	بخاری تناؤ
Vapoury	بخار دار - بخاری
Variability	تغیر پذیری
—, Measures of	تغیر کا پیمانہ
Variable	متغیر - تغیر پذیر
— density	متغیر کثافت

Valency bond	گرفتی بند
— electrons	گرفتی درقیے
Valuation	تخمین
Value	قیمت
—, Absolute	مطلق قیمت
—, Accumulated	مجتمع قیمت
—, Assessed	تشخیصی قیمت
—, Mean, theorem (Mean value theorem)	اوسط قیمت کا مسئلہ
—, Numerical	عددی قیمت
—, Par	برابری کی قیمت
—, Permissive	اجازت یافتہ قیمت
—, Present	موجودہ قیمت
Valve	صمام
— amplifier	افزون گر صمام
—, Double beat	دو ضربی صمام
—, Receiver	محصل صمام
—, Safety	حفاظتی صمام
—, Thermionic	حرروانی صمام
—, Wireless	لاسلکی صمام
Valved	صمام دار
Van de graff, Generator	فان ڈیگراف مکثورن
Vander waal's adsorption	فان ڈروال جذب
Vander waal's forces	فان ڈروال قوتیں
Vane	پنکھ

Vacuum reservoir	خلا ذخیرہ
— spectrograph	خلائی طیف نگار
— thermocouple	خلائی حرجفت
—, Torricellian	ترسیلی خلا
— tube	صمام - خلائی نلی
— tube amplifier	صمامی افزوں گر
— tube transmitter	صمامی مُرسل
— tube voltmeter	صمامی وولٹ پیما
Valence	گرفت
—, Active	عامل گرفت
— angles	گرفتی زاویے
—, Anomalous	بے قاعدہ گرفت
— band	گرفتی بند
—, Co	شریک گرفت
— crystal	گرفتی قلم
—, Dative	عطائی گرفت - داتی گرفت
—, Electro	برقی گرفت
— electron	گرفتی برقیہ
— force field	گرفتی زور میداں
—, Free	آزاد گرفت
—, Null	صفر گرفت - ناگرفت
— number	گرفتی عدد
— shell	گرفتی خول
—, Supplementary	تکمیلی گرفت
Valency	گرفت

V

V (Vanadium)	V (ونیڈیئم)
V - antenna	دو شاخہ متحیسہ
Vacancy	خالی جگہ
Vacuity	خلائیت
Vacuometer	خلا پیما
Vacuum	خلا
—, Absolute	مطلق خلا
— brake	خلائی بریک
— calorimeter	خلا حرارہ پیما
— cell	خلا خانہ
— cut off, High	اعلا خلائی قاطع - اعلا خلائی انقطاع
— distillation	خلائی کشید
— flask	خلا بوتل - خلاصراحی
— gauge	خلا ناپ
— leak detector	خلا رساو شناسندہ
— meter	خلا پیما
— polarization	خلائی تقطیب
— pump	خلا پمپ
— recorder	خلا نگار - خلا مسجل - خلائی اندراجہ

Utility factor	امادی جزو
U- tube	لا تما نل - لا مل

Uranus	یورے نس
Ursa	دب ۔ دبہ
— Major	دُب اکبر
— Minor (Little Bear)	دُب اصغر
Ursae Majoris (or Dubhe)	ظہرالدب ۔ الف دُب اکبر
— — (or Merak)	مراق الدُب
— — (or Pheeda)	فخذالدب
— — (or Alioth)	بنات کبریٰ
— — (or Mizar)	مئزرالدب
— — (or Alkaid, Benetnasch)	قائد
— — (or Talitha)	(فقرہ) ثالثہ
— — (or Megrez)	مغرز (الدب)
— — (Polaris)	نجم القطب ۔ قطب، ستارہ
— — (or Kochet)	ب دب اصغر
— — (or Pherkad)	فرقد دب اصغر
— — (or the Gaurds)	فرقدین دب اصغر
Urysohn's lema	یورساں کا ذیلی مسئلہ (تمہیدیہ)
— theorem	یورساں کا مسئلہ اثباتی
Useful life	کار آمد عمر
— magnification	کار آمد تکبیر
U. T. (Abbev. for Universal Time)	ع۔و (عالمی وقت کا مخفف)
Utilization factor	استعمالی جزو ۔ عنصر

— grid	بے سُر جالی
Unukalhay	عنق الحیہ کا معرب
Unyielding	بے لوچ - کڑا
Upper	بالائی - اوپری
— culmination	فوقانی تمکُّث
— limit	بالائی حد
— — of integration	تکملہ کی بالائی حد
— transition	بائی یا فوقانی عبور
Upthrust	اُچھال
Upward pressure	اوپر وار دباؤ
— thrust	اوپر وار دھکیل
Urania	رب النجوم
Uranian	اُورانوسی - آسمانی - فلکیاتی
Uranic (Celestial, Astronomical)	فلکی - سماوی
Uranium	یورینیم
—, Alpha	عہ یورینیم
—, Gamma	جہ یورینیم
— series	یوریم سلسلہ
Uranography	انجم نگاری - فلکیاتی نجوم
Uranolith	حجر فلکی - حجر سماوی
Uranology	علم ہئیت - فلکیات
Uranometria	قائمہ - خریطہ - ستاروں کی فہرست
Uranometry	نقشہ نجوم - فلک پیمائی
Uranoscopy	نجوم بینی

Unmusical	غیر موسیقی
Unpitched sound	بے امتدادی آواز
Unpliant	نا خم پذیر - بے لوچ
Unpolarized light	غیر تقطیب شدہ نور
Unproportional	غیر متناسب
Unreal	غیر حقیقی
Unrectified	غیر مصفیٰ
Unreflecting	غیر عاکس
Unregulated	بے ترتیب - غیر منظم
Unresolved	غیر تحلیل شدہ
Unsaturated	نا سیر شدہ - غیر سیر شدہ
— vapour	نا سیر شدہ بخارات
Unsolvable	نا حل پذیر
Unstability	نا قیام پذیری
Unstable	نا قیام پذیر - غیر قائم
— equilibrium	نا قائم توازن
— oscillation	نا قائم اہتزاز
Unsymmetrical	غیر متشاکل - بے ڈول
— oscillation	غیر متشاکل اہتزاز - بے ڈول اہتزاز
Unsymmetry	عدم تشاکل
— factor	عدم تشاکل جزو
Untuned	بے سُر - سر نا ملا
— antenna	بے سُرا مَحِیسّہ
Untuned circuit	بے سُر دور

Universal rule	قاعدہ کلی
— shunt	شنٹ عاطف
— time	عالمی وقت
Universality	ہمہ گیری - کلی حیثیت
Universe	کائنات
—, De Sitter's	ڈی سیٹر کی کائنات
—, Einstein's	آئنسٹائن کی کائنات
—, Expanding	پھیلتی کائنات
Universologist	کائنات داں
Universology	کائناتیات - علم کائنات
Univocal	یک معنوی - ہم صوت
Unlike charges	غیر مشابہ بار
— ends	غیر مشابہ سرے
— forces	غیر مشابہ قوتیں
— parallel forces	مخالف متوازی قوتیں
— magnetic poles	مخالف مقناطیسی قطبیں
Unlimited	غیر معین - غیر محدود
— integral	لاحد تکملہ - غیر محدود تکملہ
— interval	غیر محدود وقفہ - لاحد وقفہ
Unloaded wavelength	غیر حامل طول موج
Unmalleable	غیر ورق پذیر
Unmechanical	غیر میکانی - غیر میکانکی
Unmodulated	بے زیر و بم - نا کمبیشہ (کم+بیش)
Unmodulated waves	بے زیروبم لہریں-نا کمبیشی موجیں

Universal poits	اکائی نقطے
— pole	اکائی قطب
— quantity	اکائی مقدار
— system	اکائی نظام
Uniterminal axis	یک سیرا محور
Unitary	وحدانی
— analysis	وحدانی تجریہ
— method	وحدانی طریقہ
— matrix	وحدانی قالب
— space	وحدانی مکان
— transformation	وحدانی تبادل
Unity	واحد ـ اکائی ـ ایک کا عدد
—, Root of	اکائی کی اصل
Univalve	یک صمام
Univariant	هم متغیرہ
Univariant system	یک تغیری نظام
Universal	همہ گیر ـ عالمی
— chuck	همہ گیر چک
— compass	هر قطری کمپاس ـ پرکار
— Fermi Interaction	همہ گیر فرمی باهمی عمل
— gas constant	عالمی گیسی مستقل
— instrument	آلۂ عمومی
— joint	هم حرکتی جوڑ
— motor	عمومی موٹر

Uniquely defined	یکتائی تعریف شدہ
Uniradial (Light)	یک شعاعی
Uniradiate (Geom.)	واحد قطرہ ۔ یک قطرہ
Uniselector	یک انتخابیہ
— distribution frame	یک انتخادی تقسیمی چوکھٹا
Unisolated	غیر منفصل
Unison	توافق ۔ ہم سُر ہونا ۔ ہم آہنگی
—, In	متوافق ۔ توافقی ۔ ہم سر ۔ ہم آہنگ
Unisonance	ہم سری ۔ ہم آہنگی
Unisonous	ہم سر ۔ ہم آہنگ
Unit	اکائی
—, Absolute	مطلق اکائی
— area impedance	اکائی رقبہ مقاومت
— of attenuation	تلطیف کی اکائی
— cell	اکائی خلیہ ۔ اکائی خانہ
— charge	اکائی بار (بھرن)
— circle	اکائی دائرہ
—, Concrete	مقرون اکائی
— cube	اکائی مکعب
—, Derived	مشتق اکائی
—, Fundamental	بنیادی اکائی
—, Metric	میٹری اکائی
—, of illumination	تنویر کی اکائی
— planes	اکائی مستویاں

Unilateral impedance	یک حادی مقاومت
— surface	یک حابی سطح
Unimodular	یک مقیاسی
— matrix	یک مقیاسی قالب
Unimolecular	یک سالمی
— layer	یک سالمی تہہ
Uninsulated	غیر محجور
— conductor	غیر محجوز موصل
Uninuclear	یک مرکزائی
Union	اتحاد ۔ جوڑ ۔ اجتماع
— of sets	دستہ‌جات کا اجتماع
Unionized	غیر رواں شدہ
Unipartite	غیر منقسم ۔ واحد حر
Uniphonous	یک صوتہ
Unipivot	یک چُولا
Uniplanar	یک سطحی
— force	یک مستوی قوت
— motion	یک مستوی حرکت
Unipolar	یک قطبی
Unipolarity	یک قطبیت
Unipotential cathode	یک قوائی منفیرہ
Unique	یکتا ۔ منفرد
— factorization theorem	حر ساری کا یکتا مسئلہ
Uniquely	یکتا طور پر

Unidimentional	یک بعدی
Unidirectional	یک سمتی
— antenna	یک سمتی محسہ
— current	یک سمتی رو
— pulse	یک سمتی بنصیہ
— — train	یک سمتی نبضی سلسلہ
Inified field theory	متحدہ میدانی نظریہ
Inifilar suspension	یک ریشئی تعلیق
Inifor m	یکساں
– acceleration	یکساں اسراع
– circular motion	یکساں دوری حرکت
– continuity	یکساں تسلسل
– convergence of a series	سلسلے کا یکساں تقارب
– function	یکساں تفاعل
– medium	یک ذات واسطہ ۔ یکساں واسطہ
– plane waves	یکساں مستوی موجیں
– scale	یکساں پیمانہ
– speed	یکساں چال
– waveguide	یکساں موج رہبر
niformity	یکسانیت ۔ ہمواری
· trial	یکسانیت کی جانچ
. of nature	فطرت کی یکسانیت
ıilateral	یک جانبی ۔ یک طرفہ
· conductivity	یک جانبی ایصالیت

Undetermined	غیر معین ۔ نامعلوم
— coefficient	نامعلوم سر
Undissolved	غیر حل شدہ
Undulation	تموج
Undulatory	تموجی
— theory	موجی نظریہ ۔ نظریۂ تموج
Unduloid	موج نما
Undurable	نا پائیدار
Unelectrified	بے برقایا
— body	بے برقایا جسم
Unequal roots	غیر مساوی اصلیں
Unformed stars	ان بنے ستارے
Ungraduated	غیر درجہ دار ۔ بے درجہ ۔ نا درجہ دار
Ungula	قطعۂ مائل حاصرہ
Unhydrated	نابیدہ
Unhydrolysed	ناب پاشیدہ
Uniaxial	یک محوری
— crystal	یک محوری قلم
— joint	یک محوری جوڑ
Unicolour	یک رنگ
Unicoloured	یک رنگا
Uniconductor waveguide	یک موصلی موج رہبر
Unicursal	مسطح فضائی ۔ ناطقی
— curve	مسطح فضائی منحنی ۔ ناطقی منحنی

Unconditional	غیر مشروط ۔ بے شرط
— inequality	غیر مشروط نا برابری (لاتساویت)
— transfer (of control)	غیر مشروط تبدل (ضبط کا)
Uncontaminated	غیر آلودہ
Uncoupling phenomena	بے جفتی مظہر ۔ لا جفتی مظہر ۔ غیر جفتی مظہر
Undamped	غیر مقصور ۔ مسلسل
— oscillations	غیر مقصور اهتزازات
— waves	غیر مقصور امواج
Undecagon	غیر معشر
Undefined	غیر معرف
— terms	غیر معرف رقوم
Under cooling	زیر تبرید
— cut	زیر کاٹ
— developed	کم آشکارا ۔ کم نمودہ
— exposure	زیر تعریض
— hand twist	زیر دست مروڑ
— ground cable (Teleg.)	زمین دوز طناب
— shot (Wheel)	زیر شار (پہیہ)
— tint (Light)	هلکا رنگ (نور)
— tone	(۱) هلکا رنگ (نور) (۲) مدھم سر (صوتیات)
— voltage	کم وولٹاج
— — release	کم وولٹاجی رهائی
— water sound projector	آبدوز صوتی پیش انداز

Umbrage	سایہ
Umbrageous	سایہ دار - دھندلا
Umbral	ظلی یا تام ظلی
Umbratile	ظل دار
Umbrella aerial	چھتری ہوائیہ
— antenna	چھتری متجسسہ
Umbriel	امرئیل (یورینس کا دوسرا چاند)
Umbriferous	سایہ انداز
Umklapp process	امکلاپ کا طریقہ
Unary	یک عنصری
Unbalanced	غیر متوازن
— circuit	غیر متوازن دور
— network	غیر متوازن جالی کام
— system	غیر متوازن نظام
Unbiased (or Unbiassed)	غیر جانبدار
— estimate	غیر جانبدار تخمینہ
Unbounded	غیر محدود (غیر حد بند)
— function	غیر محدود (غیر حد بند) تفاعل
Uncertainty	عدم یقین - عدم تیقن
— principle	عدم تیقن اصول
— relation	عدم تیقن کا رشتہ
Uncharged	بے بار - نا برقایا
— body	بے بار جسم - نا برقایا جسم
— cylinder	بے بار استوانہ - نا برقایا استوانہ

Ultra filter	بالا مقطر
— gaseous	ورا گیسی
— micron	بالا مائکرون
— microscopic	بالا خوردبینی
— short waves	بالا خورد موجیں
— sonic	بالا صوتی
— — coagulation	بالا صوتی ترویب
— — detector	بالا صوتی شناسندہ
— — frequency	بالا صوتی تعدد
— — generator	بالا صوتی مکون
— sonics	بالا صوتیات
— violet	بالا بنفشی - ورائے بنفشی
— — cell	بالا بنفشی حاسہ
— — microscope	بالا بنفشی خوردبیں
— — microscopy	بالا بنفشی خوردبینیت
— — radiation	بالا بنفشی اشعاع
— — rays	بالا بنفشی شعاعیں
Utra zodiacal	خارج المنطقہ
— planets	خارج المنطقہ سیارے
Umbilic (or Umbilic point)	نافی (یا نافی نقطہ)
Umbilical	نافی
— point (on a surface)	نافی نقطہ (سطح پر)
Umbilicus	نافیہ (ماسکہ)
Umbra	سایہ - ظل محض

U

U (A symbol for Uranium) U (یوریم عنصر)
کی علامت

Ubiety مقامیت - مکانیت

Uehling terms اوھلنگ رقوم

U H F (Abb. for Ultra High Frequency) ب ب ت
(بالا بلند تعدد)

Ulbricht Sphere اولبریخت کرہ

— Globe Photometer اولبریحت گلوبی ضیا پیما

Ultimate analysis مختتم تحریہ

— elongation انتہائی تطویل

— intersection انتہائی تقاطع

— resistance انتہائی مزاحمت

— strength آخری یا مختتم مضبوطی (قوت)

— tensile strain انتہائی تناوی مسح (بگاڑ - فساد)

— stress انتہائی تناوی زور

Ultimo گذشتہ ماہ (کا)

Ultra centrifuge بالا مرکز گریز

— filtration بالا تقطیر

Twist	مڑوڑ - بل
Twisted	بلدار - مروڑدار
Twisting	مروڑی
Two-dimensional	دوالبعادی
Two-fluid	دو سیالی
— theory	دو سیالی نظریہ
Two-point form	دو نقطی صورت
Two-way switch	دوراہی سوئچ
Tympanum	کان کا پردہ
Type	صنف - نوع - نمونہ
— metal	ٹائپ دھات
— of a Riemann surface	سطح ریمان کی صنف
—, Problem of	صنف معلوم کرنے کا مسئلہ
Typical	صنفی - نوعی - تمثیلی - نمونے کا

Tubus Herschelli Major	ہرشل کی بڑی دوربین
Tubus Herschelli Minor	ہرشل کی چھوٹی دوربین
Tune (n.)	تان ۔ سُر
Tune (v.)	سر ملانا ۔ تان ملانا
Tuning fork	سر دو شاخہ
Turbine	تربین
—, Water	چرخاب
Turbulence	ہیجان
Turbulent flow	ہیجانی بہاؤ
Turbid	گدلا
Turn	موڑ ۔ گھماؤ
— of a helix	مرغولہ کا گھماؤ
Turning	موڑ ۔ گھوم
— moment	گردشی معیار
— point	موڑ کا نقطہ ۔ نقطۂ گریز
— value	موڑ کی قیمت
Turn-table	گھوم میز ۔ چکر میز ۔ گردشی میز
Twilight	شفق ۔ فلق
—, Morning (on Dawn)	فلق ۔ سپیدۂ صبح
—, Evening	شفق
Twinkling	ٹمٹماتا
Twin	توام ۔ جوڑواں
— second	توام ثانی
Twins	توامین

Trochoid	مستدیره
Trombone	ترُم - ٹرمبون (باجہ)
Tropic	خط
—of cancer	خط سرطان
—of capricorn	خط جدی
Tropical	اعتدالی
— month	اعتدالی ماه
—year	اعتدالی سال
Tropics	خطوط (سرطان و جدی)
Trough	حوض - لگن - نشیب
—of waves	موجوں کا نشیب (حوض)
Troy (weight)	ٹرائے (وزن)
True	حقیقی-اصلی
—discount	اصلی کٹوتی
—horizon	حقیقی افق
—motion	حقیقی حرکت
—sun	حقیقی سورج
—time	حقیقی وقت
Trumpet	ترم - تری - قرنا
Truncated	بریده - مقطوع - ناقص
—cone	بریده مخروط
—pyramid	بریده هرم
Tube	نلی
—of force	قوت کی نلی

Trigonometric (al) series	مثلثی سلسلہ
—substitution	مثلثی بدل
Trigonometry	علم مثلث
—, Plane	علم مثلث مستوی
—, Spherical	علم مثلث کروی
Trihedral	سہ سطحی ۔ سہ سطوح
—angle	سہ سطحی زاویہ
—, Moving	متحرک سہ سطوح
Trihedron	سہ سطحہ
Trilateral	سہ ضلعی (شکل) ۔ مثلث
Trilinear (co-ordinates)	سہ خطی (محددات)
Trillion	مہا سنکھ (انگریزی) ۔ دس کھرب (امریکی)
Trine	تہرا ۔ سہ گونا ۔ ثلاثہ
Trinary	ثلاثی
Trinomial	سہ رقمی
Triple	تہرا ۔ ثلاثی
-- integral	تہرا تکملہ
—point	تہرا نقطہ
—product	تہرا حاصل ضرب
—stars	نجوم ثلاثی
Tripod	تپائی
Trisection	تثلیث
Trisector	خط تثلیث
Trisectrix	تثلیثہ

Triangle, Spherical	کروی مثلث
—,Terrestrial	ارضی مثلث
Triangula	مثلثین
Triangular	مثلثی
—number	مثلثی عدد
—pile	مثلثی انبار
—plate	مثلثی تختی
—prism	مثلثی منشور
—pyramid	مثلثی هرم
Triangulation	مثلثی پیمائش
Triangulum	مثلثہ
—,Australis	مثلثہ جنوبی
—,Borealis	مثلثہ شمالی
—,Minus	مثلثہ اصغر
Trident	سہ شاخہ
Trigon	تکون - مثلث
Trigonometric (al)	مثلثی
—cofunction	مثلثی ہم تفاعل
—curve	مثلثی منحنی
—equation	مثلثی مساوات
—function	مثلثی تفاعل
—identity	مثلثی متماثلہ
—integral	مثلثی تکمّل
—ratio	مثلثی نسبت

Trapezoid	منحرف نما ۔ شکل منحرف
Travelling crane	متحرک حمالہ ۔ چلتا حمالہ
Travelling microscope	متحرک خوردبین ۔ چلتی خوردبین
Treacle	شیرہ
Treadle	پائیداں
Treadmill	پاون چکی
Trend	میلان ۔ رجحان
—line	میلانی خط
—, Secular	قرنی میلان
Tri-	سہ ۔ تین (لاحقہ)
Triad	ثلاثیہ
Trial	آزمائش
—divisor	آزمائشی مقسوم علیہ
Triangle	مثلث
—, Acute-angled	حادۃالزاویہ مثلث
—, Astronomical	فلکی مثلث
—, Equilateral	متساوی‌الاضلاع مثلث
—, Isoceles	متساوی‌الساقین مثلث
—, Obtuse-angled	منفرجۃالزاویہ مثلث
—, Pedal	پائین مثلث
—, Polar	قطبی مثلث
—, Right - angled	قائمۃالزاویہ مثلث
—, Scalene	مختلف‌الاضلاع مثلث

Transmission of sound	ترسیل آواز
Transmitter	مُرسل
Transmutation	کایا پلٹ - قلب ماہیت
Transparancy	شفافیت
Transparent	شفاف
Transpiration	سریان
Transport	سواری - باربردار - نقل و حمل
—number (or Tranference number)	حملی عدد
Transportation	نقل و حمل - بار برداری
Transpose	بدل
—of a matrix	قالب کا بدل
Transposition	بدلی
Transversal	خط قاطع
Transversality	قاطعیت
Transverse	قاطع عرضی
—axis	عرضی محور
—magnet	عرضی مقناطیس
—plane	عرضی مستوی
—section	عرضی تراش
—wave motion	عرضی موجی حرکت
Trapezium	ذو دنقہ
—isosceles	متساوی الساقین ذودنقہ
Trapezohedron	منحرف شکلہ - منحرف السطوح

Transit of Mercury	عبور عطارد
—of Venus	عبور زہرہ
—, Upper	عبور اعلی
Transition	عبور - انتقال
—interval	عبوری وقفہ
—, Motion of	عبوری حرکت
Transitive	عبوری- متعدی
Transitory	ہنگامی - عارضی
Translation	انتقال - منتقلی
—and Rotation	گردش اور انتقال
—of axes	محوروں کی منتقلی
—surface	انتقالی سطح
Translational	انتقالی
—energy	انتقالی توانائی
—force (or translatory force)	انتقالی قوت
—interval	انتقالی وقفہ
—velocity	انتقالی رفتار
Translucency	نیم شفافیت
Translucent	نیم شفاف
Transmissible	ترسیل پذیر
Transmissibility	ترسیل پذیری
Transmission	ترسیل - انتقال - اشاعت
—coefficient	شرح انتقال
—of heat	انتقال حرارت

Transformation Congruent	متطابق تحویل
—,Conjuction	متواصل تحویل
—group	تحویل گروہ
—,Homogeneous	متجانس تحویل
—,Homothetic	ہم وضعی تحویل
—,Indentical	یکساں تحویل
—,Inverse	معکوس تحویل
—,Isogonal	ہم زاویائی تحویل
—,Linear	خطی تحویل
—,Normal	عمادی تحویل
—of co-ordinates	تحویل محددات
—,Symmetric	متشاکل تحویل
—,Topological	طبقاتی تحویل
—,Unitary	وحدانی تحویل
Transformed	تبدیل شدہ - تحویل شدہ - مبدل
Transformer	تبدیل گر - تحویل گر - مبدل - محول - بدل گر
Transister	ترانزستر - بدل مزاحم
Transit	گزر - عبور
—circle (or Meridian circle)	عبوری دائرہ - دائرہ نصف النہار
—instrument	آلہ عبور
—,Lower	عبور اسفل
—of a satellite	عبور تابع
—of a shadow	عبور سایہ

Trade	تجارت
Trade winds	تجارتی ہوائیں
Trait	نشان - رسم - خاصہ
Trajectories	خطوط مرمی
—, Orthogonal	علی القوائم خطوط مری
Trajectory	خط مری
Transcendental	علوی - ماورائی - غیرالجبری
—curve	غیرالجبری منحنی
—function	غیرالجبری تفاعل
—number	غیرالجبری عدد
Transcontinental	عبور دراعظمی
—ballastic missile	عبور دراعظمی اندفاعی قذیفہ
Transducer	محول
Transference number (or Transport number)	حملی عدد
Transfinite	ورائے محدود
—number	عدد غیر صحیح
Transform	تبدل - تحول
—of an elemant	عنصر کا تبدل
—of a matrix	قالب کا تبدل
Transformation	تبدیل - تحویل - استحالہ
—, Affine	مربوط تحویل
—, Adjoint	شریک تحویل
—, Collineatory	ہم خطی تحویل

Torus (or Anchor ring)	لنگر حلقہ
Total	کل - پورا - مجموعہ - مجموعی
—curvature	مجموعی انحنا
—derivation	مکمل مشتق
—deviation	مکمل انحراف
—differential	کُلّی تفرق
—eclipse	کامل گرہن
—internal reflection	کُلّی داخلی انعکاس
—pressure	مجموعی دباؤ
—reflection	کُلّی انعکاس
Totally	کلی - مجموعی
—bounded	کلی محدود
—disconnected	کلی غیر ملحق
—reflected	کلی منعکس
Trace	نقش - خاکہ - نشان - رسم
— of a line	نشان خط
— of a matrix	نشان قالب
—of a surface	نشان سطح
Tracing (of curves)	منحنیات کی ترسیم
Tracing paper	نقل گیر کاغذ
Traction	جر - کشش
Tractive	جری
—force	جری قوت - قوت کشش
Tractrix	کششیہ

Tonic (or key-note)	کھرج - بنیادی سُر
Tonometer	سُر پیما - سرتی پیما
Topological	قیامیاتی
—group	قیامیاتی گروہ
—manifold	قیامیاتی کثیر شکلہ
—property	قیامیاتی خاصیت
—space	قیامیاتی فضا
—transformation	قیامیاتی استحالہ
Topology	قیامیات
—, Algebraic	الجبری قیامیات
—, Conbinatorial	امتزاجی قیامیات
—of space	فضائی قیامیات
—, Point-set	دستی قیامیات
—Strong	مضبوط قیامیات
—, Uniform	یکساں قیامیات
—, Weak	کمزور قیامیات
Torque	پیچہ - ٹارک
Torsion	مروڑ
—coefficients	مروڑ سر
—fibre	مروڑ ریشہ
—free	مروڑ آزاد
—head	مروڑ ٹوپ - مروڑ سرا
—of a geodesic	خط اقصر کا مروڑ
—pendulum	مروڑی لٹکن (پنڈولا)

Time Apparent solar	ظاہری شمسی وقت
—dilation	تمدد زماں
—discount	زمانی کٹوتی
—, Local	مقامی وقت
—, Mean	اوسط وقت
—, Mean solar	اوسط شمسی وقت
—of flight	مدت پرواز
—rate	زمانی شرح
—series	زمانی سلسلہ
—, Sidereal	کوکبی وقت
—, Standard	معیاری وقت
—, True	حقیقی وقت - صحیح وقت
Tin	قلعی - رانگا
—foil	قلعی کا ورق (پترا)
Tint	فام
Tintometer	فام پیما - رنگ پیما
Titan	طیطاں (یورنیس کا تیسرا قمر)
Titration	معائرہ
Titration, Cunductrometric	ایصال پیمائی معائرہ
Tone	سُر- سُرتی - لہجہ
—generator	سرتی جنک سُرتی مُکسّون
—variator	سر بدل
Tongue (of reed)	زباں (پتی) - جیبھی

Thuban	ثعبان
Tidal	مد و جزری
—current	مد و جزری رو
—day	مد و جزری دن
—evolution	مد و جزری ارتقا
—friction	مد و جزری رگڑ۔ مد و جزری مزاحمت
Tide	مد و جزر۔ جوار بھاٹا
—,Ebb	جزر ۔ بھاٹا
—,Equinoctical	اعتدالی مد
—,Flood (or Flow)	مد ۔ جوار
—,High	کامل مد
—,Low	کامل جزر
Tides	مد و جزر
—,Lagging of	ابطائے مد
—,Luner	قمری مد و جزر
—,Neap	اصغر مد و جزر
—,Priming of	اسراع مد
—,Spring	اعظم مد و جزر
—,Solar	شمسی مد و جزر
Tie	گرہ ۔ بند ۔ بندھن
Tie Line	بندھن خط
Time	وقت ۔ زمان ۔ مدت
—,Apparent	ظاہری وقت

Theta-function	طہ تفاعل ۔ تہہ تفاعل
Thick	موٹا ۔ دبیز
Thickness	موٹائی
Thimble	انگشتانہ
Thimble scale	انگشانہ پیمانہ
Thin	پتلا ۔ باریک
Thixotropy	لمسی مایہ پذیری
Thread	ڈورا ۔ دھاگہ
Thread (of screw)	چوڑی (پیچ کی)
Thread (of mercury)	ڈورا (پارے کا)
Three, Rule of	قاعدہ متناسبہ
Three-circle theorem	سہ دائری مسئلہ
Three-cusped	سہ قرنی
Three-dimensional	سہ ابعادی
Three-dimensions	سہ ابعاد ۔ ابعاد ثلاثہ
Three-point problem	سہ نقطی مسئلہ
Three-way tube	تراہی نلی
Threshold	دہلیز
—frequency	دہلیزی تعدد
Throttle valve	گلاصمام
Throttled expansion	خنقی پھیلاؤ
Thrust	دباو ۔ دھکیل
—decay	دباؤ زوال
—weight ratio	دباؤ وزن نسبت

Thermal capacity	حراری استعداد
—effect	حراری اثر
Thermion	حر رواں
Thermionic	حر روانی
— effect	حر روانی اثر
Thermo	حر (سابقہ)
Thermo chemistry	حر کیمیا
Thermocouple	حر جفت
Thermodynamic	حر حرکی
Thermodynamics	حر حرکیات
Thermoelectric	حر برقی
—current	حر برقی رو
— diagram	حر برقی نقشہ
Thermoelectricity	حر برق
Thermo-element	حراری عنصر
Thermoflask	حراری صراحی
Thermometer	تپش پیما
Thermomilliammeter	حر ملی ایم پیما
Thermopile	حراری انبار
Thermophone	حراری فون
Thermos	تھر ماس
Thermoscope	تپش نما - تھرمو سکوپ
Thermosphere	تپش کرہ
Thermostat	تپش قرار

Tetartohedral	ربع سطحی
Tethys	طیطس (زحل کا تیسرا قمر)
Tetrahedral	چو سطحی - چو سطحہ
—angle	چو سطحہ زاویہ
—group	چو سطحی گروہ
—surface	چو سطحی سطح
Tetrahedron	چو سطحہ
—, Regular	منظم چوسطحہ - منظم ذو اربعۃالسطوح
Thalia	تھالیہ (جدید سیارچہ)
Thaw melt method	پگھلنے پگھلانے کا طریقہ
Theodolite	زاویہ پیما
Theorem	مسئلہ
Theoretical	نظری
—physics	نظری طبیعات
Theory	نظریہ
—, Linear	خطی نظریہ
- of Equations	مساواتوں کا نظریہ
—of Functions	نظریۂ تفاعلات
—of Groups	گروہوں کا نظریہ
—of Numbers	نظریۂ اعداد
Therm	تھرم (حرارت کی عملی اکائی)
Thermal, Thermic	حری - حراری - حرارتی
—analysis	حراری تحلیل (تجزیہ)
—barrier	حراری رکاوٹ

Terminal screw	انتہائی پیچ
—velocity	سرعت نہ ئیہ - حدی رفتار
Terminating	مختتم - اختتامی
—continued fractions	مختتم کسور مسلسل
—decimal	مختتم اعشاریہ
Terminator	خاتم
Ternary	ثلاثی
—representation (of numbers)	ثلاثی تعبیر (اعداد کی)
Terrestrial	ارضی
—circle	ارضی دائرہ
—date line	ارضی خط تاریخ
—equator	ارضی خط استوا
—globe	ارضی کرہ - کرۂ ارضی
—latitude	ارضی عرض بلد
—longitude	ارضی طول بلد
—magnetism	ارضی مقناطیسیت
—meridian	ارضی نصف النہار
—pole	ارضی قطب
Tesseral harmonic (or surface harmonic)	سطحی ہم آہنگ
Test	امتحان - جانچ - آزمائش
—charge	امتحانی بار
—tube	امتحانی نلی

Tensile	تناوی
—elasticity	تناوی اچک
—strength	تناوی طاقت
—stress	تناوی زور
Tensimeter	تناؤ پیما
Tension	تناؤ
—,Modulus of	مقیاس تناؤ
Tensor	تناویہ
—analysis	تناوی تحلیل
—,Contravariant	ضد متغیر تناویہ
—,Covariant	ہم متغیر تناویہ
—,Fundamental metric	بنیادی میٹری تناویہ
—,Mixed	مخلوط تناویہ
—,Numerical	عددی تناویہ
—,Skew-symetric	مُعَوَّج متشاکل تناویہ
—strain	فسادی تناویہ ۔ مسخی (بگاڑ) تناویہ
—stress	زور تناویہ
—symmetric	متشاکل تناویہ
Term (s)	رقم (ارقام۔ رقوم)
Terminal	حدی ۔ انتہائی ۔ آخری
—condition	حدی حالت
—form	حدی صورت
—side	حدی ضلع

Telescopic (al)	دور بینی
—objects	دور بینی اجسام
—stars	دور بینی ستارے
Telescopium	دور بینہ
Telesychrometer	بعیدی رطوبت پیما
Televise	دور نمانا
Television	دور نمائی ۔ ٹیلیویژن
Televisor	دور نما
Telewriter	دور نویس
Tellurian	ارضی
Temper	معتدل کرنا
Temperament	مزاج ۔ آمتاد
Temperature	تپش ۔ حرارت
—, Absolute	مطلق تپش
—coefficient	شرح تپش
—gradient	تپشی ڈھال
Temperal	معتدل ۔ اعتدالی
Tempering	آب دینا ۔ تاؤ دینا
Temporary	عارضی ۔ وقتی
—stars (or Novac)	ہنگامی ستارے
	نو تارے ۔ عارضی ستارے
Ten	دس
Tenacious	محکم گیر
Tenacity	محکم گیری

Tax, Indirect	بالواسطہ ٹیکس۔ محصول بالواسطہ
—, Poll	رائے شماری محصول
Technical	فنی
Technician	فنکار - دستکار - صناع
Technique	اسلوب فن - تکنیک - فنیت
Technology	فنیات - صناعیات
Tegat post (or Geminorium)	تحیائی
Tegmine (or Cancri)	ریہ (سرطان)
Telegram	تار برقی - ٹیلیگرام
Telegraph	آلہ تار برقی - ٹیلیگراف
Telegraphy	علم تار برقی۔ ٹیلیگرافی۔ دور نگاری
Telemetering	دور پیمائی
Telephone	ٹیلیفون
Telephony	ٹیلفونی
Telephoto	ٹیلی فوٹو - بعیدی تصویر
Telephotography	بعیدی فوٹو گرافی
Teleprinter	بعیدی طابع - دور طابع - ٹیل پرنٹر
Telescope	دور بین
—, Achromatic	بے رنگ دوربین
—, Astronomical	فلکی دور بین
—, Equatorial	استوائی دوربیں
—, Reflecting	انعکاسی دور بیں
—, Refracting	انعطافی دوربیں
—, Terestrial	ارضی دوربیں

Tangible	ٹھوس ۔ واضح ۔ قابل احساس
Tank	ٹنکی ۔ حوض
Tap (v.)	کھٹکھٹانا
Tap (n.)	ٹونٹی
Tape	فیتہ
Tape Recorder	ٹیپ ریکارڈر
Tapping key	داب کنجی
Tar	تارکول
Target	ہدف ۔ منتہا
Tariff	شرح نامہ ۔ درج نامہ ۔ (تعریف سے بنا ہے)
Taseometer	بگاڑ پیما
Tauri (or Aldebran)	الف الثور (الدبران)
Tauri (or Natu)	ب ثور (ناطح)
Tauri (or Alcyone and pleiad)	وسط ثریا
Tauri (Toygeta)	۱۹ ثور (تائیجیتا)
Taurids	ثوریہ
Taurine	ثوری
Taurus (the Bull)	ثور
Taurus (Poniatowski)	ثور اصغر
Tautochrone	مساوی الوقت
Tautochronus	مساوی الزمان
Tautochrony	مساوی الزمانیت
Tax	محصول ۔ ٹیکس
—, Direct	بلا واسطہ محصول

Tac-point	هم مماسی نقطہ
Tail	دم - دنب
Tail-race	دنبالہ - نچلا دھارا
Tail or Train (of comet)	دنبالہ
Tail, The Dragon's	ذنب تنین
Taken alternately	بالتبادل
Taken inversely	بالعکس
Talita, Tailitha (or Ursae Majoris)	ثالثہ
Talkie (Film)	ناطق - دولتی (فلم)
Talkie, Walkie	چلتا دولتا (نقل پذیر آلہ)
Tan (Abbreviation of Tangent)	مس (مماس کا مخفف) - ظلیل
Tangency	مماسیت - تماس
Tangent	مماس - ظلیل
— curve	مماسی منحنی
— galvanometer	مماسی رو پیما (گلون پیما)
— law	کلیہ مماس
— line	مماسی خط
— plane	مماسی مستوی
— surface	سطح مماس
Tangential	مماسی
— acceleration	مماسی اسراع
— force	مماسی قوت
— screw	مماسی پیچ

T

Tab	تکمہ - حساب - جانچ پڑتال
Table	جدول
—, Astronomical	زیج - زیج
—, Conversion	تحویلی جدول
—, Logarithmic	لوگارتمی جدول
—, Multiplication	ضربی جدول - پہاڑا
Tabular	جدولی
— differences	جدولی فرق
Tabulate	جدول بندی کرنا
Γabulation	جدول بندی
Taɔhograph	رفتار نگار
Tachometer	رفتار پیما
Tachometric electrometer	تیز برق پیما
Tachygraphy	تیز نگاری
Tackle, Block and Tail plane (Stabilizer)	توازن گر
Taclocus	ہم مماسی طریق
Tacnode (or double cusp)	دو قرنی نقطہ

Synodic month or lunation	شہر یا ماہ قمری
Synodic rotation of the Sun	حرکت وضعی (سورج کی ظاہری)
Synodic period	قمری مدت
Synodic Year	قمری سال
Synthetic division	ترکیبی تقسیم
Syringe	پچکاری
Syrup	شربت
System	نظام
System of circles	دائروں کا نظام
System of pulleys	چرخیوں کا نظام
Systematic (error)	ترتیبی (خطا)
Syzygy	اجتماع ۔ استقبال (چاند یا سورج کا)
Syzygy, Line of	خط ماریہ ۔ نقاط اجتماع

Suspended	معلق
Suspended coil galvanometer	معلق لچھا گلون پیما
Suspended magnet	معلق مقناطیس
Suspension	تعلیق
Suspension bridge	جھولا پل
Swan	طائر - عنق الدجاجہ
Swarm (meteoric)	حلقہ نیرکیہ - شہاب ثاقب کا جھنڈ
Sweeps	ملاحظات - ارصادات
Swing	پینگ - ارتعاش
Switch	کھٹکا - سوئچ
Switch board	کھٹکا تختہ
Symbol	علامت
Symbol representation	علامتی تعبیر
Symmedian	شبیہہ وسطی
Symmetric	متشاکل - سڈول
Symmetrical	متشاکل - سڈول
Symmetric function	متشاکل تفاعل
Symmetric points	متشاکل نقطے
Symmetric solids	متشاکل ٹھوس
Symmetry	تشاکل - سڈول پن
Sympathetic	مشارکی
Sympathetic vibration	مشارکی ارتعاش
Synchronous	ہم وقت
Synclastic	ہم انحنائی

Superheating	پرگرمائی
Superior limits	اعلی حدود
Supernumerary (bows)	فالتو (قوسین)
Superior Planets	سیارات علوی
Superposable	انطباق پذیر
Supersaturated	پرسیر
Supersaturation	پرسیری
Supersonic	بالا صوتی
Super stratum	بالائی طبقہ
Supplement	تکملہ
Supply	رسد
Support	سہارا
Surd	اصم
Surds	مقادیر اصم
Surface	سطح
Surface, Curved	منحنی سطح
Surface, Common	مشترک سطح
Surface, Plane	مستوی سطح
Surface tension	سطحی تناو
Surgery	جراحی
Surveying telescope	مساحتی دوربیں
Surveyor	مساح
Susceptibility	اثر پذیری
Susceptible	اثر پذیر

Sulphuric acid	گندھک کا ترشہ
Sumfunctions	مجموعہ تفاعلات
Summation (tone)	جمعی (سرتی)
Summer	صیف - گرمی
Summer Solstice	انقلاب صیفی
Sun	سورج - شمس - آفتاب
Sun beam	شعاع - کرن
Sun bow	قوس شمسی - دھنک
Sun-dial	دھوپ گھڑی
Sun-dog	کلب الشمس
Sun-rise	طلوع شمس
Sunset	غروب شمس
Sunshine	دھوپ
Sun, The disc of	قرص آفتاب
Sunspots	داغ ہائے شمسی
Superconjunction	اقتران اعلی
Supercooled	پرسرد
Supercooling	پرسردائی - بالا تبرید
Superficial	سطحی
Superficial expansion	سطحی پھیلاؤ
Superficial, Prime	سطحی اولی
Superfusion	پرگداری
Superheated	پرگرم

Subjective	موضوعی
Submarine	آبدور
Submarine boats	آبدور کشتیاں
Submicroscopic	زیر خوردبینی
Sub-multiple	کسری - زیر ضعفی
Sub-normal	زیر عماد - زیر طبعی
Sub-pole	تحت القطب
Subsidiary	ذیلی - امدادی - ضمنی
Subsolar point	زیر شمس نقطے
Substance	شئے
Substitute	بدل
Substitution	بدل - ابدال
Substyle	زیر میل
Sub-tangent	زیر مماس
Successive	متواتر
Successive differentiation	متواتر تفرق
Successive reduction	متواتر تحویل
Suction	چوسن
Suction pump	چوس پمپ
Suffixes	لاحقے
Suha (or Alcor)	سہا
Sulaphat or Lyrae	سلحفات (صورت شلیاق کا ستارہ)
Sulphion	کب رواں (کب مخمص کبریت)۔ گندھکی رواں
Sulphur	گندھک

Stream line	سیلی خط ۔ بہاؤ خط
Strength	مضبوطی ۔ طاقت
Strength of shell	خول کی طاقت
Stress	زور
Stress couple	زور جفت
Stress intensity	شدت زور
Stretched string	کھیچا ہوا ڈورا
Stretching	کھینچاو
Stretching force	تناوی قوت
String	ڈورا ۔ تار ۔ ڈوری
Strip	پترا ۔ پٹی
Strip (of mirror)	پٹی (آئینہ کی)
Stroboscope	گردش نما
Stroboscopic	گردش نمائی
Stroke	ضرب ۔ مار
Stroking	پھیرنا
Struck string	چھیڑا تار
Structure	ساخت
Strut	فشاری سلاخ
Style (old or new)	طریقہ ۔ طرز (قدیم یا جدید)
Sub	زیر ۔ تحت
Sub-dominant chord	اترتی تان
Sub-duplicate	جذریہ

Stern	سکان - پیچھا
Stethoscope	سینہ بین
Stiff	صُلب - کڑا
Stiffness	کڑا پن
Stilt	پایہ
Stirrer	ہلانی
Stirrup	رکاب
Stool	تپائی
Stones (Meteoric)	سنگ (شہابی)
Stop	روک
Stopcock	روک ڈاٹ
Stopper	ڈاٹ
Stopwatch	روک گھڑی - رکنی گھڑی
Storage	ذخیرہ
Storage cell	ذخیرہ خانہ
S. T. P.	م - ت - د
Straight line	خط مستقیم
Strain	فساد - بگاڑ
Strain energy	فسادی توانائی
Strained condition	فسادی حالت
Strapes	رکاب
Strata	طبقات
Stratosphere	فضاء قائمہ
Stream	دھار

Stationary vibration	ساکن ارتعاش
Stationary wave	ساکن موج
Statistics	شماریات - فن اعداد و شمار
Stator	سکونہ
Steady (state)	قائم (حالت)
Steady force	قائم قوت
Steady motion	قائم حرکت
Steam	بھاپ
Steam generator	بھاپ کے مُکثّورن
Steam heater	بھاپی گرمالہ
Steam jacket	بھاپی پیراہن
Steam tight	بھاپ بند
Steam trap	بھاپ گیر
Steel	فولاد
Stellar	نجمی - کوکبی
Stellar magnitude	کوکبی قدر
Stem	تنا - ڈلی
Stepdown (Transformer)	زوالی (بدل گر)
Step of Helix	گام ، مرغولہ کا
Steps (of moving point)	قدم (متحرک نقطے کے)
Step up (Transformer)	عروجی (بدل گر)
Stereographic	تسطیحی - تجسیمی
Stereographic projection	تسطیحی ظل اندازی
Stereoscope	سیر بین - تجسیم نما

Stars, Fixed	ثوابت
—, Multiple	نجوم متعدد
—,Periodical	وقتیہ ستارے
—,Pulsating	نابض ستارے
—,Quadruple	رباعی ستارے
—,Quintuple	خماسی ستارے
—,Sextuple	سداسی ستارے
—,Treble	ثلاثی ستارے
—,Variable	متغیرہ ستارے
—,Wandering	سیارات
State	حالت
—,Critical	فاصل حالت
—,Steady	قائم حالت
Static	سکونی
Statical	سکونی
Static electricity	سکونی برق
Static frictional force	سکونی فرکی قوت
Static inclined plane	سکونی مائل مستوی
Static induction coil	سکونی امالہ لچھا
Statics	سکونیات
Station	مقام- مستقر
Stationary	ساکن
Stationary points	ساکن نقطے
Stationary value	قائم قیمت

Stand	ٹیکن - استادہ
Standard	معیار - معیاری - راسخ
Standard cable	معیاری طناب
Standard capacity	معیاری گنجائش
Standard capacity box	گنجائش کا معیاری صندوق
Standard cell	معیاری خانہ
Standard deviation	معیاری انحراف
Standard entropy	معیاری ناکارگی
Standard form	معیاری صورت
Standardisation	معیار بندی
Standardise	معیار بنانا
Standard temperature	معیاری تپش
Standard type	معیاری نمونہ
Standing waves	استادہ موجیں
Star	نجم - کوکب - ستارہ
—Atlas	ستاروں کا اٹلس - ستاروں کا نقشہ
—brightness	ستاروں کی چمک یا درخشانی
—catalogue	زیچ - قوائم النجوم
—cluster	ستاروں کے خوشے - جھمکے - جھرمٹ - عناقید
—, Errant (or Errants)	نجوم متحیرہ
—gauges	مقیاسات نجوم
—group	ستاروں کے گروہ
Stars, Double	مجموعے ستارے

Spring balance	کمانی دار ترازو - کمانی ترازو
Spring tide	مد ربیع
Square	مربع
Squared paper	مربع دار کاغذ
Square, Magic	طلسمی مربع
Square matrix	مربع قالب
Square numbers	مربع اعداد
Square of Pagasus	مربع فرس اعظم
Square, Pooled sum of	مربعات کے مجموعوں کا اجتماع
Square root	جذر
Square wave	مربع موج
Stable	قیام پذیر - قائم
Stable equilibrium	قائم توازن
Stable orbit	قائم مدار
Stable system	قائم نظام
Stability	قیام پذیری
Stable volt	قائم وولٹ
Stabilised	قائم شده
Stacking	انبار لگانا
Stainless	بے رنگ
Stalagmometer	قطره پیما
Stamper	مہر کار

Spherical polar coordinate	کروی قطبی محددات
Spherical surface	کروی سطح
Spherical.triangle	کروی مثلث
Spherical triunmetry	علم مثلث کروی
Spheroid	کره نما
Spheroidal	کره نمائی
Spheroid oblate	کره نما بیضی مستدیر
Spheroid prolate	کره نما بیضی جسم
Spherometer	کرویت پیما
Spice	العدار - مسلا
Spider	عنکبوتی تار یا خطوط عنکبوت
Spin	گھوم
Spindle	تکلہ
Spinthariscope	شرر نما - جھلک نما
Spiral	مرغولہ - مرغولہ نما
Spıral spring	مرغولہ دار کمانی
Spirit le\el	افق نما
Spirit of wine	روح شراب
Spontaneous	از خود
Sporckεt wheel	دندانہ دار پہیا
Spot	داغ - دھبہ
Spout	دھانہ - ٹونٹی
Spray	پھوار
Spring	کمانی - اسپرنگ - ربیع

Spectrum, Absorption	جذبی طیف
Spectrum analysis	طیفی تشریح - طیفی تجزیہ
Spectrum, Atomic	جوہری طیف
Spectrum, Band	پٹی طیف - بندی طیف
Spectrum, Continuous	مسلسل طیف
Spectrum, Discontinuous	غیر مسلسل طیف
Spectrum, Emission	خروجی طیف - اخراجی طیف
Spectrum of a matrix	قالب کا طیف
Spectrum, Secondary	ثانوی طیف
Speculum	آئینہ (عکس انداز) - معکس
Speech	گفتار
Speech sound	گفتاری آواز
Speed	چال
Sphere	کرہ
Sphere, Celestial	سماوی کرہ
Sphere, Oblique	مائل کرہ
Sphere, Parallel	متوازی کرہ
Sphere, Right	قائم کرہ
Spherical	کروی
Spherical cap	کروی ٹوپی
Spherical envelope	کروی غلاف
Spherical excess	کروی زیادتی
Spherical harmony	کروی ہم آہنگی
Spherical mirror	کروی آئینہ

Specific heat	حرارت نوعی
Specific ionisation	نوعی رواں سازی
Specific resistance	نوعی مزاحمت
Specific rotation	نوعی گردش
Specific surface	نوعی سطح
Spectacles	چشمے - عینک
Spectra	طیف (جمع)
Spectral	طیفی
Spectral colour	طیفی رنگ
Spectral density	طیفی کثافت
Spectral emmission	طیفی اخراج
Spectral energy	طیفی توانائی
Spectral lines	طیفی خطوط
Spectral position	طیفی مقام
Spectral sensitivity	طیفی حساسیت
Spectral transmission	طیفی ترسیل
Spectrogram	طیفی نقشہ - طیفہ
Spectrograph	طیف نگار
Spectrometer	طیف پیما
Spectrophotometer	طیفی ضیا پیما
Spectroscope	طیف نما
Spectroscopic	طیف نمائی
Spectroscopy	طیف نمائی
Spectrum	طیف

Sounding box	آواز بکس ۔ بول بکس
Sounding wave	موج آواز
Sound ranging	آوازی حد
Source	ماخذ ۔ منبع ۔ مبدا
Southern cross	صلیب جنوبی
Southern fish	سمکہ جنوبی
Southern zone	منطقہ جنوبی
Southing	میلان جنوبی
South polar distance	قطب جنوبی کا فاصلہ
Space	فضا ۔ مکان
Space centrode	فضا مرکز طریق
Space matrix	فضائی قالب ۔ مکانی قالب
Space rate	مکانی شرح
Space, Sub	ذیلی مکان
Space, Vector	سمتی مکان
Span	فصل
Spark	شرارہ
Sparking	شرارہ اندازی
Spark plug	شرارہ ڈاٹ
Speaking tube	بول نلی
Specific	نوعی
Specification	تفصیل
Specific gravity	ثقل نوعی ۔ کثافت اضافی ۔ وزن نوعی

Solid similar	ٹھوس مشابہ
Solid state	ٹھوس حالت
Solitarius	طائر ھدی
Solstices	انقلابین
Solstic	انقلاب شمسی - نقطۂ انقلاب
Solstitial	انقلابی
Solstitial colour	خطوط عکسوت - دائرہ انقلابین
Solsticial points	نقاط انقلاب
Solstic summer	انقلاب صیفی
Solstic winter	انقلاب شتوی
Soluble	حل پذیر
Solute	منحل
Solution	محلول
Solve	حل کرنا
Solvent	محلل
Sonar	سونار (صوتی آلہ گہرائی کے لئے)
Sone	صوت (سابقہ)
Sonic	صوتی
Sonometer	صوت پیما
Sorption	جذب و جذب
Sound	آواز
Sounder	آواز گر
Sounding	مفتش - عمق پیمائی
Sounding board	بول تختہ

Solar constant	شمسی مستقل
Solar corner	شمسی کنارہ
Solar cycle	شمسی دورہ
Solar day	شمسی یوم - روز شمسی
Solar eclipse	سورج گرہن
Solar ecliptic limit	حد کسوف
Solarimeter	شمس پیما
Solarisation	تشمیش - آفتاب زدگی
Solar prominences	شمس کی لپٹیں - شعل احمر - شمسی بروز
Solar radiation	شمسی اشعاع
Solar spectrum	شمسی طیف
Solar spots	آفتاب کے داغ
Solar system	نظام شمسی
Solar time	شمسی وقت
Solar year	شمسی سال
Solder	ٹانکا
Soldering	ٹانکا لگانا
Solenoid	پیچوان
Solid	ٹھوس - مجسم - جامع
Solid	مجسم زاویہ
Solidification	ٹھوس بنانا - انجماد
Solidity	جسمیت - ٹھوس پن
Solids of revolution	گردشی مجسمات

Slide	پھسل
Sliding	پھسلواں
Slip	پھسل
Slit	جھری ۔ شگاف
Slope	ڈھلواں ۔ ڈھال ۔ ڈھلان ۔ اتار
Sloping	مائل
Slot	شگاف
Sloted bar	شگاف دار سلاخ
Slow	آھستہ ۔ سست
Slug (unit of mass)	سلگ (کمیت کی اکائی)
Small	چھوٹا ۔ صغیر
Small circle	چھوٹا دائرہ ۔ دائرۂ صغیر
Smectic	مصمی
Smooth	چکنا ۔ بسیط
Smoothness	چکنائی ۔ سلاست
Snap	کھٹکا
Snow	برف ۔ یخ ۔ ثلج
Snow flake	برف کا گالا
Socket	ساکٹ ۔ گھر
Soft	نرم
Soft iron	نرم لوھا
Soft X-rays	نرم لاشعاعیں
Solar	شمسی ۔ آفتابی
Solar compass	شمسی قطب نما

Siren	گائن
Sirius (Canis Majoris)	شعری یمانی ـ کلب الجبار
Situation	موقع ـ وضع
Six-vector	شش سمتیہ
Size	جسامت ـ ناپ ـ قامت
Skat (or Aquarii)	ساعد (دلو)
Skeleton	ڈھانچہ
Skew	کج ـ منحرف
Skew distribution	کج اقسام
Skew hermitian	کج ہرمیشی
Skew quadrilateral	کج چوکور ـ کج دواربعتہ الاضلاع
Skew symetric	کج تشاکل ـ کی تشاکل
Skiagraph	(۱) لاشعاعی تصویر (۲) سایہ گھڑی
Skiascope	سایہ نما
Skidding	گھسٹنا
Skid	پہیہ روک ـ گیر
Skin	سطح
Skip	زقند ـ جست
Sky	آسمان
Slack	ڈھیلے
Slank	ترچھا ـ مائل
Slanting	مائل
Slate	سلیٹ
Slice	قاش

Sine curve	جیبی منحنی
Sine potentiometer	جیبی قوہ پیما
Sine series	جیبی سلسلے
Sine wave	جیبی موج
Singing flame	سریلا شعلہ
Single	واحد ۔ مفرد
Single force	قوت واحد
Single valued	واحد قیمتی ۔ یک قیمتی
Singular	منفرد ۔ خاص
Singular curve	مفرد منحنی
Singular matrix	مفرد قالب
Singular point	مفرد نقطہ
Singular solution	مفرد حل
Singular transformation	خاص الستحالہ ۔ مفردالستحالہ
Sinh (hyperbolic sine)	زائدی جیب
Sink	ڈسال
Sinker	ڈوبک ۔ لنگر
Sinuous	لہریلا ۔ لہریا
Sinusoid	جیبی منحنی
Siphon	خمدار نلی ۔ سائیفن
Siphon barometer	سائیفی بار پیما
Siphon recorder	سائیفنی نویسندہ
Sirrah (or Andromedae)	سرۃالفرس ۔ راس السلسلہ

Simple harmonic motion	سادہ موسیقی حرکت
Simple integral	سادہ تکمل
Simple interest	سود مفرد
Simple microscope	بسیط خوردبین - سادہ خوردبین
Simple root	سادہ جذر
Simplex	مفرد
Simplex, Closed	بند مفرد
Simplex, Degenerate	انحطاطی مفرد
Simplexed	مفرد شدہ
Simplex method	مفرد طریقہ - سادہ طریقہ
Simplex, Open	کھلا مفرد
Simplex, Oriented	تشریق شدہ مفرد
Simplicial	مفردی
Simplicial complex	مفردی پیچیدہ
Simplicial mapping	مفردی نقشہ کاری
Simplification	اختصار
Simplified	سادہ کیا ہوا - مختصر کیا ہوا
Simplify	مختصر کرنا - سادہ کرنا
Simply	سادہ طور پر
Simultaneous	ہمزاد
Simultaneous equation	ہمزاد مساوات
Simultaneous inequalities	ہمزاد لاتساویات - ہمزاد عدم مساویات
Sine	جیب التمام

Signs of the Zodiac	صور منطقتہالبروج
Signs, Stable, (ثور - اسد - عقرب - دلو) (Taurus, Leo, Scorpio, Amphora)	بروج ثابتہ
Signum	نشان
Signum function	نشان تفاعل
Silver	چاندی - سیم
Silver plating	چاندی کاری - سیم کاری
Silver surface	چاندی چڑھی ہوئی سطح - سیمی سطح
Similar	مشابہ
Similar figures	متشابہ اشکال
Similarity	مشابہت
Similar surds	متشابہ مقادیر
Similar triangles	متشابہ مثلث
Similitude	مشابہت
Simple	سادہ
Simple arc	سادہ قوس
Simple cell	سادہ خانہ
Simple closed curve	سادہ بندی منحنی
Simply connected region	سادہ طور پر ملاہوا خطہ
Simple cusp	سادہ ہلالی
Simple elongation	سادہ طولی اضافہ - سادہ تطویل
Simple event	سادہ واقعہ - سادہ وقوعہ
Simple fraction	سادہ کسر
Simple function	سادہ تفاعل

Sidereal clock	کوکبی گھڑی
Sidereal day	روز فلکی یا رور واقعی ـ کوکبی
Sidereal month	کوکبی مہینہ
Sidereal moon	کوکبی دوپہر ـ نجمی دوپہر ـ کوکبی ظہر
Sidereal peiod	سال سیارہ ـ نجمی عرصہ
Sidereal time	نجمی وقت
Sidereal year	کوکبی سال
Siderite	شہابی لوہا ـ شہاب آہنی
Siderolites	شہاب آہن آمیز
Side tube	دعلی نالی
Side wire bridge	دعلی تار کا پل
Sieve	چھلنی
Sighting	شست ـ دیکھنا
Sighting method	طریق شست
Sighting rod	شست گیر
Sigma or Σ	ثہ یا Σ
Sign	علامت
Signal	اشارہ
Significance	معنی خیزی
Significance, Degree of	معنی خیزی کا درجہ
Significant	معنی خیز
Signs, Inclining (Aries, Cancer, Libra, Capricorn)	بروج منقلبہ (حمل ـ سرطان ـ میزان ـ جدی)

Sheratan (or Arietis)	شرطین
Shield	سپر ۔ ڈھال ۔ روک ۔ حجاب
Shielded	محجوب
Shift	تبادله
Shock	جھٹکا ۔ صدمه ۔ تصادم ۔ دھچکا
Shock excitation	تصادمی انگیزش ۔ دھچکا انگیزش
Shock motion	دھچکا حرکت
Shock wave	تصادمی موج
Shocking coil	جھٹکا ۔ تصادمی لچھا
Shooting star	شہاب ثاقب
Short	قصر ۔ چھوٹا ۔ کوتاہ
Short circuit	کوتاہ دور ۔ قصر دور
Short period comets	قلیل مدتی دمدار تارے
Short range	کوتاہ رد
Short sight	قریب نظری ۔ کوتاہ نظری
Short wave	قصیر موج ۔ چھوٹی موج
Shower	بوچھاڑ ۔ چھینٹا
Shrink	سکڑنا
Shrinking	سکڑنا
Shunt	قاطع
Shunt wound dynamo	همتواری لپٹا ڈائنمو
Side	ضلع ۔ کنارہ ۔ رخ ۔ جانب
Sideband	جانبی بند ۔ کناری پٹی
Sidereal	نجمی ۔ کوکبی

Shadow produced	ظل ممتد
Shadow zone	سایہ منطقہ
Shaft	شافٹ ۔ دھرا
Shank	ساق
Shape	ساخت - شکل
Sharp	تیز
Sharply defined	واضح الحدود ۔ ممتازالحدود
Sharpness	تیزی
Shaulah (or Scorpii)	شولہ (شولتہ العقرب کا مخفف)
Shear	قینچ زور
Shear elasticity	قینچ لچک
Shearing	قینچ
Shearing force	قینچ قوت
Shear iron	ڈھلا ہوا لوھا
Shear modulus	قینچ مقیاس
Shear strength	قینچ طاقت
Shear stress	قینچ فساد
Shear wave	قینچ موج
Sheath	نیام - غلاف - پوشش
Sheet	چادر ۔ کاغذ کا تختہ
Sheet grating	پٹری جالی
Sheliak (lyrce)	شلیاق - کچھوا
Shell	خول
Shellac	لاکھ

Serpentis (or Unukanai)	عنق الحیہ (صورت شجاع)
Servomechanism	علا میکانیت (علام + میکانیت)
Set	دستہ
Sets	دستہ جات
Sets, Bounded	محدود دستہ جات
Sets, Disjoint	بے ربط دستہ جات
Sets, Finite	متناہی دستہ جات
Sets, Generating	تکوینی دستہ جات
Sets, Infinite	لامتناہی دستہ جات
Sets, Intersection of	دستہ جات کا تقاطع
Sets, Ordered	مرتب دستہ جات
Sets, Theory of	نظریہ دستہ جات
Setting	غروب - عددی قرات
Sexagesimal	ستینی
Sextans	مسدسہ - عدسہ
Sextant	آلہ مسدس - مدس آلہ
Sextic	شش درجی - چھ درجی
Sextillion	دس ارب کھرب کھرب
Shade	سایہ - تاریکی
Shading	سایہ اداری - نیلا رنگ بھرنا
Shadow	سایہ - ظل - پرچھائیں
Shadow effect	سایہ اثر
Shadow factor	سایہ جز
Shadow in moonlight	سمر

Series	سلسلہ ۔ سلاسل
Series, Alternating	بدلتے سلسلے
Series, Arithmetic	حسابی سلسلے
Series, Ascending	سعودی سلسلے
Series, Asympttic	متقاربی سلسلے
Series, Binomial	ثنائی سلسلے
Series, Convergent	تقاربی سلسلے ۔ سمٹتے سلسلے
Series, Descending	نزولی سلسلے
Series, Divergent	انفراجی سلسلے ۔ پھیلتے سلسلے
Series, Exponential	قوت نمائی سلسلے
Series, Finite	متناہی سلسلے
Series, Geometric	هندسی سلسلے
Series, Harmonic	موسیقی سلسلے
Series, Hypergeometric	بالا هندسی سلسلے
Series, Infinite	لامتناهی سلسلے
Series, Trignometric	مثلثی سلسلے
Series, Logrithmic	لوکارتمی سلسلے
Series, Oscillating	اهتزازی سلسلے
Series, Power	قوائی سلسلے
Series winding	سلسلہ وار لپیٹ
Series wound dynamo	سلسلہ وار لپٹا ڈائنمو
Serpens (the Serpent)	الحیہ
Serpenterius (serpent bearer)	حامل الحیہ
Serpentine curve	مارپیچ منحنی

Sense of touch	حس لامہ
Sensibility	حس پذیری
Sensitive	حساس
Sensitive balance	حساس ترازو
Sensitivity	حساسیت
Sensitizer	حساس گر
Separable	قابل تفریق
Separater	فارق
Separating power	فارق قوت
Separating surface	فارق سطح
Separation	علیحدگی
Septenary	سبعی - ہفتی
Septillion	پدم درپدم (ایک کے بعد ۲۰ صفر)
Sequence	تواتر - مسلسل
Sequence, Bounded	محدود تسلسل
Sequence, Convergent	تقاربی تسلسل
Sequence, Divergent	پھیلتا تسلسل
Sequence, Finite	متناہی تسلسل
Sequence, infinite	لامتناہی تسلسل
Sequence, Monotonic	یک کیفی تسلسل
Sequence, Regular	منظم تسلسل
Sequential	تسلسلی
Serial	سلسلہ وار

Self inductance	خود امالیت ـ خود امالہ
Self luminous	خود منور
Self saturation	خود سیری ـ خود سیر شدگی
Semi-	نصف ـ نیم
Semi arc	نصف قوس
Semi chord	نصف وتر
Semi circular	نیم دائری
Semi circular variation	نصف دائری انصراف
Semi condutor	نیم موصل
Semi cubical parabola	نیم کعبی مکافی
Semi defenite	نیم معین
Semi diameter	نصف قطر
Semi diurnal motion	نیم یومی حرکت
Semi ellipsoidal	نیم ناقص نمائی ـ نیم هلیلج نمائی
Semi fluid	نیم مائع
Semi group	نیم گروه
Semi major axis	نیم محور اعظم
Semi minor axis	نیم محور اصغر
Semi perimeter	نصف احاطه
Semi permeable	نیم نفود پذیر
Semitone	ادھ سرتی
Sensation	احساس
Sense	حس
Sense of feeling	حس الامسه

Sector length	قطاع طول
Sector, Spherical	کروی قطاع
Secular	قرنی
Secular accelaration	قرنی اسراع
Secular determinant	قرنی مقطعہ
Secular equation	قرنی مساوات
Secular parallax	قرنی اختلاف منظر
Secular variation	قرنی تغیر
Secundra Geidi (capricorni)	قرن الجدی
Segment	قطعہ - حصہ
Seismic	زلزلی
Seismograph	زلزلہ نگار
Seismology	زلزلیات
Selectance	انتخابیت
Selection	انتخاب
Selective	انتخابی
Selectivity	انتخابیت
Selector	انتخاب کنندہ (ناخب)
Selenocentric	قمر مرکزی
Selenography	رسم القمر - قمر نگاری
Self adjoint transformation	خود شریک (ملحق) استحالہ
Self attraction	جاذب بالذات - خود کشش
Self combination	اجتماعی بالذات - خود ترکیبی

Sculptor	بتگر - بت تراش - نقاش
Scutum (Sobieskı)	ترس سوبیسکی - سپرشار
Sea breeze	نسیم بحری - بحری هوا
Sea level	سمندری سطح - سطح بحر
Season	فصل - موسم
Secant	قاطع
Second	ثانیہ - سکنڈ
Secondary	ثانوی
Secondary axis	ثانوی محور
Secondary battery	ثانوی مورچہ
Secondary cell	ثانوی خانہ
Secondary circles	ثانوی دائرے
Secondary coil	ثانوی لچھا
Secondary planets	ثانوی سیارے
Second term	دوسری رقم
Section	قطعہ - تراش - حصہ
Sectional	تراشی
Sectional dimensions	تراشی ابعاد
Section, Cross	عمودی تراش
Section gap	حصہ خلل
Section, Harmonic	هم آهنگی تقسیم - موسیقی تراش
Sectıon of a plane	مستوی کی تراش
Section view	تراش منظر
Sector	قطاع (دائرہ)

Scheliak	شلیاق
Science	سائنس
Scientific	سائنسی
Scientific unit	عملی اکائی - سائنسی اکائی
Scintillation	درخشانی - جھلملاہٹ
Sclerometer	صلابت پیما - سختی پیما
Scleroscope	صلابت نما - سختی نما
Scope	نما (لاحقہ)
Scorpii	عقرب
Scorpio (the Scorpion)	عقرب
Scorpionis (Antares, or cor Scorpionis)	قلب عقرب
Scorpion's heart	قلب العقرب
Scratch	خراش
Screen	پردہ
Screen grid	حجابی جالی
Screening	حجابی - حجاب ڈالنا
Screening effect	حجابی اثر
Screw	پیچ
Screw axis	پیچ محور
Screw gauge	پیچ داب
Screw jack	شہ پیچ
Screw steamer	پیچ جہاز - پیچ اسٹیمر
Screw thread	پیچ ڈورا - چوڑی (پیچ کی)

Saturate	سیر کرنا
Saturated Solution	سیر شده محلول
Saturation	سیری
Saturn	رحل
Saturnian	زحلی
Saturnicentric	رحل مرکزی
Saturnigraphy	رحل کا جغرافیہ - رسم الرحل- زحلیمرافیہ
Scalar	عددی
Scalar field	عددی میدان
Scalar function	عددی تفاعل
Scalar matrix	عددی قالب
Scalar potential	عددی قوہ
Scalar product	عددی حاصل
Scalar quantity	عددی مقدار
Scale	پیمانہ
Scalene (triangle)	مختلف الاصلاع (مثلث)
Scale pan	پلڑا
Scan	تقطیع کرنا
Scanning	تقطیع
Scatter	بکھیرنا - منتشرکرنا
Scattergram	انتشار نامہ
Scattering	انتشار
Scheat (or β Pagasi)	ساعدالفرس
Schedir Shedir ; (or Cassoopeiae)	صدرالکرسی (ذات الکرسی)

Safety valve	حفاظتی صمام
Sag	جھوک
Saqitta (the Arrow)	سہم
Sagittarii	قوس الرامی
Sagittarii (Kaus Australis)	قوس جنوبی
Sagittarii (Sadira)	نعائم الصادرہ یا واردہ
Sagittarius (the Archer)	قوس
Salient angle	اہم زاویہ
Salient point	اہم نقطہ
Salient pole	اہم قطب
Salt	نمک
Saltness	نمکینی
Sample	نمونہ
Sample, Proportional	جزوی نمونہ
Sample, Random	اٹکل پچو نمونہ - جزافی نمونہ
Sampling action	نمونہ گیری عمل - نمونہ انداری عمل
Sampling error	نمونہ گیری (انداری) کی خطا
Sampling principle	نمونہ گیری (انداری) کا اصول
Sand bath	بالو حنتر
Sand paper	ریگ مال
sappho	سیفو
Saros	قرن - صاروس
Sash	سیش (کھڑکی)
Sattelite	تابع قمر - مصنوعی سیارہ

S

s (arc length)	ق (قوس کی لانبائی)
s (Displacement)	ھ (ھٹاؤ)
S (entropy)	ں (ناکارگی)
s (second)	س یا ث (سیکنڈ یا ثانیہ)
s (spin quantum number)	گ (گردش کوانٹم عدد)
S (Surface)	س (سطح)
Saccharimeter	شکر پیما
Sad (or Pegasi)	سعد
Sadachbia (or aquarii)	سعدالاخبیہ
Sadalmalik (or Aquarii)	سعدالملک
Sadatoni (Suriga)	ذات العنان
Saddle	زین
Saddle point	زین نقطہ
Sadir (Sadar)	صدرالدجاجہ
Safety	حفاظت
Safety factor	حفاظتی جزو
Safety fuse	حفاظتی گدازندہ
Safety lamp	بچاؤ لمپ - حفاظتی لمپ

Rotor	گردانہ
— motion	گردانہ حرکت
Rough (surface)	کھردری (سطح)
Roulette	گردویہ - گردوری
Round	گول
— figure	پورا عدد
Row	صف - قطار
Rule	طریقہ - قاعدہ
— of maximum multiplicity	اعظم ضعف کا طریقہ
Ruled (surface)	مسطر (سطح)
Rupture	شکستگی
Rydberg constant	ریڈ برگ کا مستقل

Rocket	راکٹ
Rod	سلاخ
Roentgen rays	رونحنی شماعیں
Roll	لڑھکنا
Rolling	لڑھکنے والا - لڑھکن
— friction	لڑھکن رگڑ
— resistance	لڑھکتی مزاحمت
Root	اصل - جذر
—, Complex	ملتف اصل - ملتف جذر
—, Cube	جذر المکعب
—, Infinite	لامتناهی اصل
—, Irrational	غیر ناطقی اصل
—, Rational	ناطقی اصل
—, Reciprocal	مقلوب اصل
—, Square	جذر المربع
Rotameter	گردش پیما
Rotanev (or Delphini)	ذنب الدلفین
Rotary	گردش
Rotate	گھمانا - گردش دینا - گردش کرنا
Rotating	گردشی - گھومتا ہوا
Rotation	گردش - محوری گردش
Rotational	گردشی
Rotator	گردشہ
Rotatory	گردشی

Revolve	گھومنا - گھمانا
Rhea	ری
Rheology	روپات
Rheograph	رونگار
Rheometer	روپیما
Rheostat	رو قرار
Rhombic	معین نما
Rhomboid	معین نما
Rhombus	معین
Rider	سوار - راکب
Rigel (or Orinios)	رجل الجورا
Rigil (or Centauri)	رجل القنطورس
Right	راست - سیدھا - قائمہ
— angle	زاویہ قائمہ
— hand (rule)	دست راست (اصول)
Rigid	استوار
Rigidity	استواریت
Ring,	حلقہ
Ring, Commutative	مبدل حلقہ
—, Factor	جز حلقہ
—, Semi	نیم حلقہ
— structure	حلقی ساخت
Ripple	لہر
Rise	ترقی - طلوع

Resultant	حاصل
Resulting	حاصل کرنا
Retardation	سست گری - ادطا
Retarded	سست شدہ
Retarder	سست گر
Retentivity	امساک - ضبط
Reticle	شبکہ
Reticular	شبکی
Reticulated	شبکہ شدہ
Reticulum	شبکہ
Retina	شبکیہ - آنکھ کا پردہ
Retro	رجعی - الٹی
Retroaction	رجعی عمل
Retrograde	رجعی - الٹی
Retrogression	رجعت
Return	واپس - واپس کرنا
Reverberate	پلٹانا
Reverberation	پلٹاو
Reversal	الٹنا - الٹاو
Reverse	الٹا
Reversibility	رجعت پذیری
Reversible	رجعت پذیر
Reversion	رجعت
Revolution	مداری چکر - گردش

Resistance box	مراحمت کا صندوق
—, External	خارجی مراحمت - بیرونی مزاحمت
—, Internal	داخلی مراحمت - اندرونی مراحمت
—, Specific	مخصوص مراحمت
— thermometer	مراحمتی تپش پیما
Resisting	مراحم
Resistivity	مراحمیت
Resistor	مزاحم
Resolute	تحلیل شده
Resolution	تحلیل - تقسیم
Resolve	تحلیل کرنا
Resolxent	تحلیل گر
Resolving	تحلیلی
Resonance	گُمک
Resonant	گُمکی
Resonator	گمکیا
Resorption	بار جذب
Response	جواب
Rest	سکون
Restitution	عود
Restoration	بحالی
Restore	بحال کرنا
Restorer	بحال گر
Result	نتیجہ

Remote velocity	فاصلاتی رفتار
Removal	هٹاؤ
Remove	هٹانا
Repeat	دهرانا ـ تکرار کرنا
Repeated	مکرر
Repeater	تکراری
Repel	دفع کرنا
Repeller	دافع کرنے والا
Repetition	تکرار ـ دهراؤ
Replace	تبدیل کرنا
Replacement	تبدیلی
Represent	ظاهر کرنا - تعبیر کرنا
Representation	نمائندگی - تعبیر
Reproduce	بار حصول - بار آوری
Reproduction	بار حصول - بارآوری
Repulse	دفع کرنا
Repulsion	دفع - تدافع
Repulsive	تدافعی
Reserve	محفوظ
Reservoir	ذخیره ـ حوض - حوضک
Residual	مابقی
Residue	مابقی
Resilience	بار گشتگی
Resistance	مزاحمت

Regulate	منظم کرنا - درست کرنا
Regulation	تنظیم
Regulator	ناظم
Regulus	قلب اسد
Reignition	دبار اشتعال
Reject	رد کرنا - مسترد کرنا
Rejection	استرداد - رد
Relation	تعلق - رابطہ
Relative	اضافی
— density	اضافی کثافت
— humidity	اضافی مرطوبیت
— motion	اضافی حرکت
— velocity	اضافی رفتار
Relativity	اضافیت
Relaxation	استراحت
Relay	معاون
Reliability	اعتمادیت
Reliable	قابل اعتماد
Reluctance	تامل
Reluctivity (specific reluctance)	تامل (مخصوص تاملیت)
Remainder	باقی
— theorem	باقیاتی کا نظریہ اثباتی
Remote control	فاصلاتی کنٹرول - فاصلاتی ضبط

Refracting	انعطاف انگیز - انعطافی
Refraction	انعطاف
Refractive index	انعطاف نما
Refractivity	انعطافیت
Refractometer	انعطاف پیما
Refractometry	انعطاف پیمائی
Refrangible	انعطاف پذیر
Refrigerant	سرد آور
Refrigeration	سردانا
Refrigerator	سرد آله
Regelation	باز انجماد
Regeneration	باز جنک - بار تکوین - احیاء - تکوین نو
Regenerative	بار مکون - بار تکوین
Region	خطه
Regres.ion	رجعت
— coefficient	رجعتی شرح - رجعتی قدر
— effect	رجعتی اثر
— function	رجعتی تفاعل
—, Lines of	رجعتی خطوط
Regula Falsi (Method)	غلط مقامی (طریقہ)
Regular	منتظم - باضابطہ
— figure	منتظم شکل
— function	منتظم تفاعل

Redundancy	فراوانی
Redundant	فراوان - وافر
— equation	فراوانی مساوات
Reed	پتی
— pipe	نے پتی
Reel	ریل
Re-entrant (angle)	متداخل (زاویہ)
Reference	حوالہ
—, Axis of	حوالہ کا محور
—, Frame of	حوالہ کا چوکھٹا - حوالہ کا ڈھانچہ
— line	خط حوالہ
Reflect	منعکس کرنا
Reflectance	انعکاسیت
Reflecting	انعکاسی
Reflection	انعکاس
— grating	انعکاسی جالی
—, Total	کلی انعکاس
Reflectivity	انعکاسیت
Reflectometer	انعکاس پیما
Reflector	عاکس
Reflex	عکسی
Reflex angle	عکسی زاویہ
Reflexive	عکس
Refracted	منعطف

Rectangular hyperbola	مستطیلی زائد - قائم زائد
— parallelepiped	مستطیلی - متوازی السطوح
— solid	مستطیل جسم - مستطیلی ٹھوس
Rectifiable	قابل راست
Rectification	راست گری
Rectifier	راست گر
Rectify	راست کرنا
Rectifying	راست گری - راست گر
Rectilinear	مستقیم - سیدھی -راست خط میں
— motion	مستقیم حرکت
— propagation	مستقیم اشاعت
Recurrence	توالی
Recurrent	متوالی
Recurring	متوالی
Recursion formula	توالی ضابطہ
Red heat	سرخ حرارت
— shift	سرخ ہٹاو
Reduce	تحویل کرنا
Reducible	قابل تحویل
Reduction	تحویل
— factor	تحویلی جزو
— formula	تحویلی ضابطہ
Reductio Ad Absurdum	احالہ بہ محال - دلیل الخلف

Real	حقیقی
— axis	حقیقی محور
— image	حقیقی شبیہ - حقیقی خیال
— number	حقیقی عدد
Rebound	باز گشت
Recalescence	باز تکلیس
Receiver	گیرندہ - محصل
Reception	وصولی - حصول
Recession	رجعت
Reciprocal	مقلوب
— curve	مقلوب منحنی
— equation	مقلوب مساوات
— lattice	مقلوب جالی
— matrix	متکافی قالب
— proportion	مقلوب تناسب
Reciprocity	مقلوبیت - متکافیت
Recoil	باز جست
— radiation	باز جستی اشعاع
Record	ریکارڈ - نگاشتن - نگارش - اندراج
Recorder	مُدرّج
Recording	نگارش - نگاشتن - اندراج
Rectangle	مستطیل
Rectangular	مستطیلی
— axes	مستطیلی محاور

Rational	ناطقی
— function	ناطقی تفاعل
— number	ناطقی عدد
Rationalisation	ناطق بنانا ۔ ناطقانا
Rationalise	ناطق بنانا
Ray	شعاع
—, Alpha	عہ شعاع
—, Beta	بہ شعاع
—, Canal	نہری شعاع
—, Cathode	منفیری شعاع
—, Cosmic	کونی شعاع ۔ کائناتی شعاع
—, Gamma	حہ شعاع
—, Infra red	زیریں سرخ شعاع
—, Ultra violet	بالا بنفشی شعاع
Rayleigh refractometer	ریلے کا انعطاف پیما
Reactance	رد عملیت ۔ تعاملیت
Reactant	متعامل
Reaction	تعامل
—, Fision	انشقاقی تعامل
—, Fusion	گداختی تعامل
—, Nuclear	مرکزائی تعامل
Reactive	تعاملی
Reactor	تعامل گر
Ready Reckoner	دستی محاسب

Random sample	اٹکل پچو نمونہ ۔ جزافی نمونہ
— sequence	اٹکل پچو ترتیب ۔ جزافی ترتیب
— variable	بے ترتیب متغیرہ ۔ جزافی متغیرہ
Range	رد ۔ حد
— finder	رد یابندہ ۔ رد پیما
— of proportionality	حد تناسب
Rank	رتبہ
Rare (Medium)	لطیف (واسطہ)
Rarefaction	لطیف بنانا ۔ تلطیف
Rarefy	لطیف بنانا
Rasalgethi (or a' Herculıs)	راس الجاثی
Rasalhague (or Ophıuchı)	راس الحوا
Rastaban	راس الثعبان
Ratchet	روک دانت
Rate	شرح
— of decay	شرح انحطاط
Rating	شرح بندی ۔ درجہ بندی
Ratio	نسبت
—, Cross	چلیپی نسبت
—, Harmonic	موسیقی نسبت
—, Inverse	معکوس نسبت
—, Recıprocal	مقلوب نسبت
—, Test	جانچ نسبت

Radio sonde	ریڈیو سونڈے
— spectroscope	شماعی طیف دما
— spectrum	شماعی طیف
— thermoluminescence	ریڈیائی حر تنویر - شماعی حر تنویر
— window	ریڈیائی کھڑکی - ریڈیائی روزن
Radium	ریڈیم
Radius	نیم قطر - نصف قطر
— of convergence	تقارب کا نصف قطر
— of curvature	انحنا کا نصف قطر
— of gyration	گردش کا نصف قطر
— vector	نیم قطری سمتیہ
Radix	اصل
Raingauge	بارش پیما
Rainbow	دھنک - قوس قزح
Ram	قوچ - کوبا
Ram (Aries)	حمل
Raman effect	رامن اثر
Raman spectrum	رامن طیف
Rammer	دُھمّس
Ramming	دُھمّس کرنا
Random	اٹکل پچو - جزافی
— device	اٹکل پچو طریقہ - جزافی طریقہ
— orientation	اٹکل پچو تشریق - جزافی تشریق

Radio beacon	ریڈیائی اشارہ
— Chemistry	ریڈیائی کیمیا
— communication	ریڈیائی مواصلات
— element	ریڈیو عنصر ۔ ریڈیائی عنصر
— frequency	ریڈیائی تعدد
Radiogenic	ریڈیو زا
Radiograph	شعاع نگار
Radiographic contrast	شعاع نگاری اختلاف
— density	شعاع نگاری کثافت
Radiography	شعاع نگاری
Radioisotope	ریڈیو ہم جا
Radiolocation (Radar)	ریڈیائی مقام شناسی ۔ ریڈیائی مقام بندی
Radiologic safety	اشعاعی تحفظ
Radiology	شعاعیات
Radioluminescence	ریڈیائی تنویر ۔ اشعاعی تنویر
Radiometeorograph	ریڈیائی میکال نگار
Radiometer	شعاع پیما
Radio micrography	شعاعی خورد نگاری
— micrometer	ریڈیائی خورد پیما ۔ شعاعی خورد پیما
— navigation	ریڈیائی جہاز رانی ۔ شعاعی جہاز رانی
— nuclide	ریڈیائی مرکزہ ۔ شعاعی مرکزہ
— photoluminescence	ریڈیائی ضیائی تنویر
— sensitivity	ریڈیائی حساسیت ۔ شعاعی حساسیت

Radiant power	شعاع ریزطاقت
Radiate	شعاع ریزی کرنا
Radiating	اشعاعی - شعاع ریز
Radiation	اشعاع - شعاع ریزی
— correction	اشعاعی تصحیح
— ccunter	اشعاعی شمارندہ
—, Infra red	زیریں سرخ اشعاع
— laws	اشعاع کے قوانین
— potential	اشعاعی قوہ
— pressure	اشعاعی دباؤ
— resistance	اشعاعی مزاحمت
—, Ultra violet	بالا بنفشی اشعاع
Radiator	شعاع ریز
Radical	علامت جذر - اساس
— axis	اساسی محور - بنیادی محور
— centre	اساسی مرکز - بنیادی مرکز
— plane	اساسی مستوی
— sign	علامت جذر کا نشان
Radicand	زیر جذر
Radio	ریڈیو
Radioactive	تابکار
Radioactivity	تابکاری
Radio Astronomy	ریڈیائی فلکیات
— autograph	ریڈیائی خود نگارش

R

r (Radius)	ص (نصف قطر)
r, R (Resistance)	م ، م (مزاحمت)
r (Unit-Roentgen)	ر (اکائی رونجن)
r (Position vector)	و (مقامی سمتیہ)
R. A. (Right Ascension)	ص - م - (صعود مستقیم)
Radar	ریڈار - راڈار
Radial	نیم قطری
— velocity	نیم قطری رفتار
Radially	نیم قطری
Radian	نیم قطری
— length	نیم قطری طول
Radiance	تنویر
Radiancy	تنویر
Radiant	شعاع ریز - منور
— energy	شعاع ریز توانائی
— flux	شعاع ریز بہاؤ - شعاع ریز سیلان
— heat	شعاع ریز حرارت - منور حرارت
— intensity	شعاع ریز شدت - منور شدت

Quartile deviation	تربیعی انحراف
Quartz	گار پتھر - بلور
Quasi	نیم
Quaternary	رباعی
Quaternions	احصائے چورقمی - احصائے مردمی
Quiantile	تخمیس
Quiescent	ساکن
Quinquelateral	پنج ضلعی
Quintic	پنج درجی
Quintillion	سنکھ (امریکہ میں 10^{18} برطانیہ میں 10^{30})
Quintuple	پانچ گونا
Quod erat demonstrandum (Q.E D.)	ثابت شد - فہوالمطلوب
Quod erat factendum	ساختہ شد - فہوالمعمول
Quotennial	سالانہ
Quotient	حاصل تقسیم - خارج قسمت

Quadrilateral	چار ضلعی
Quadrillion	دس دیل (امریکہ میں 10^{15} برطانیہ میں 10^{24})
Quadrinomial	چو رقمی
Quadruple	چار گردھی
Quadrupole	چار قطبی
Quality	کیفیت
Quantic	کثیر درجی
Quantifier	قدر انداز ـ قدرپیما
Quantities, Known	معلوم مقداریں - مقادیر معلوم
Quantity	مقدار
Quantization	قدراندازی ـ قدرانا ـ قدریانہ ـ کوانٹم ساری
Quantize	قدراندازی کرنا - کوانٹم ساری
Quantized	قدر انداز شدہ قدرایا ـ کوانٹایا
Quantum	قدری
— mechanics	قدری میکانیات ـ کوانٹم میکانیات
— numbers	قدری اعداد ـ کوانٹم اعداد
— theory	قدری نظریہ - کوانٹم نظریہ ـ نظریۂ قدریہ
Quarii	دلو
Quarter	چوتھائی
Quarter, First	ربع اول
Quarter, Last	ربع آخر
Quartic	چار درجی
Quartile	تربیع

Q

Quadrable	مربع پذیر
Quadra Euclidis	مربع اقلیدس
Quadrangle	چهار زاویائی - چوگوشیه
Quadrangular	چهار زاویائی - چوگوشیه
Quadrant	ربع دائره - ربع
Quadrantal	ربعی
Quadrant electrometer	ربع برق پیما
Quadrantids	اکلیلیه
Quadratic	دو درجی
Quadratic Algebra	دو درجی الجبر و المقابله
Quadration	اربعوییه
Quadratrix	قوس تربیع
Quadrature	ربع پیمائی
Quadric	دو درجی
—, Central	مرکزی دو درجی
—, Confocal	هم ماسکه دو درجی
—, Degenerate	فاسد دو درجی
— surface	دو درجی سطح

Psychrometer	خشک و تر تپش پیما
Pull	کھینچنا - کھنچاؤ
Pully	چرخی
Pulse	نبض
Pulsometer	نبض پیما
Pump	پمپ
Pupil	پتلی - قرنیہ
Puppis	ثفر سفینہ - سگان - دبوسہ
Pure	خالص
Purple	ارغوانی
Push	دھکا - دھکا دینا
Push button	داب بٹن
Pycnometer	کثافت پیما
Pyramid	مخروط مضلع - اہرام
Pyramidal	اہرامی
Pyrgeometer	آتشی ارض پیما
Pyrheliometer	آتشی شمس پیما
Pyroelectricity	آتشی برق
Pyrometer	آتش پیما
Pyrometry	آتش پیمائی
Pythagorean	فیثا غورثی
Pyxis	کمپاس

Propeller	رانیدہ
Proper	واجب ۔ مناسب
Properly	واجبی - مناسب طور پر
Property	خاصیت - خصوصیت
Proportion	تناسب
Proportional	تناسبی
Proportionality	تناسبیت
Proposition	قضیہ
Propositional	قضایاتی
Propulsion	رانش دھکیل
Prospective	متوقع
Protect	حفاظت کرنا
Protection	حفاظت
Protective	محافظ
Proton	پروٹون
Protractor	چاندہ
Proximity	قرب
Proximo	ماہ آئندہ
Psalterium Georgianum	چنگ جارجی - چنگ گرجی
Pseudo adiabatic	نقل حر ناگرار
— **scalar**	نقل عددیہ
— **sphere**	نقل کرہ
— **tensor**	نقل تنویہ
— **vector**	نقل سمتیہ

Product, Infinite	لامتناہی حاصل ضرب ۔ لاتناہی حاصل ضرب
—, Inner	داخلی حاصل ضرب
—, Outer	خارجی حاصل ضرب
—, Partial	جزوی حاصل ضرب
—, Scalar	عددی حاصل ضرب
—, Vector	سمتی حاصل ضرب
Product of Inertia	جمود کا حاصل ضرب
Progression	تواتر
—, Arithmetic	حسابی تواتر
—, Geometric	ہندسی تواتر
—, Harmonic	موسیقی تواتر
Progressive	ترقی پذیر
— wave	ترقی پذیر موج
Project	ظل ۔ پیش اندازی
Projected	پھینکا ہوا ۔ ڈالا ہوا (سایہ)
Projecting plane	پیش انداز مستوی ۔ سایہ افگن مستوی
Projectile	مرمی پیش اندازہ
Projection	ظل اندازی ۔ پیش اندازی ۔ تظلیل
Projective	تظلیلی
Projectivity	ظلیت
Projector	پیش انداز ۔ ظل انداز
Proof	ثبوت
Proof plane	چاشنی گیر
Propagation	اشاعت

Principal axis	اصل محور - صدر محور
— diagonal	اصل وتر
— ideal	اصل تصوریہ
— meridian	اصل نصف النہار
— pnormal	اصل عماد
— part	اصل جزو
— plane	اصل مستوی
— radius	اصل نیم قطر (اصل نصف قطر)
— tangent	اصل مماس
— value	اصل قیمت
Principle	اصول
Prism	منشور
Prismatic	منشوری
Prismatoid	منشورنما
Prismoid	منشور نما (اسم)
Prismoidal	منشور نما (صفت)
Probability	احتمال
Probable error	احتمالی خطا (ممکنہ خطا)
Problem	مسئلہ
Process	عمل
Procyon (the advanced dog)	شعریٰ شامی - شعیصا
Product	حاصل ضرب
—, Cartesian	کارتیسی حاصل ضرب
—, Direct	راست حاصل ضرب

Potency	قوت
Potential	قوه
Potential difference	قوائی فرق
Potential energy	قوائی توانائی
Potentiometer	قوه پیما
Poundal	پاونڈل
Power	طاقت
Power series	طاقتی سلسله ـ سلسله قوت (ریاضی)
Praesepe (the Bee-hive)	پر سیپے
'raxiteles (Sculptoris)	قلم نقاش
'recession	استقبال
'recise	دقیق
'recision	دقت
'ressure	دباؤ
'rimary	اولی
rimary planets	سیارات اولی ـ سیارات اولیه
rimary radiation	اولی اشعاع
ime	مفرد
ime Giedi	راس الجدی
ime meridian	نصف النهار اول
ime number	مفرد عدد ـ متباین عدد
ime Polynomial	متباین کثیر رقمی
me Vertical	مفرد دائره ـ اول السمت
mitive	ابتدائی
ncipal	اصل ـ صدر

Pole	قطب
Polhode	قطبی طریق
Pollux (or Geminorum)	راس التوام (موخر)
Polychromic	کثیر لونی
Polygon	کثیرالاضلاع - کثیر ضلع
Polygonal	کثیر ضلعی
Polyhedral	کثیر سطحی
Polyhedron	کثیر سطح -کثیر السطوح
Polymorphic	کثیر وضعی
Polymorphism	کثیر وضعیت
Polynomial	کثیر رقمی
Polyphase	کثیر هئیت
Population	آبادی
Pore	مسام
Porosity	مسامیت
Porous	مسام دار
Porrima (or Virginis)	القطاف موخر
Position	مقام - محل
Positional	مقامی
Positive	مثبت
Positron	پوزیٹران (مثبیه)
Posteriori	بعد تجربی
Post office box	پوسٹ آفس بکس
Postulate	مسلمه

Plot	نشان لگانا ـ رسم کرنا
Plough, The (See Ursae Majoris)	دب اکبر
Plug	ڈاٹ
Plumb line	شاقول ـ خط شاقول
Plunger	ڈبکنا ـ ڈبکنی سلاخ
P M. (Post meridian)	ب ـ ظ ـ (بعد ظہر)
Pneumatic	ہوائی
Pneumatics	ہوائیات
Point	نقطہ
Pointer	نمائندہ
Pointolite	نقطہ روشنی
Poise	توازن (گھڑی سازی)
Polar	قطبی
Polarimeter	تقطیب پیما
Polarimetry	تقطیب پیمائی
Polaris	قطب تارہ
Polarisation	تقطیب
Polariscope	تقطیب نما
Polariser	تقطیب گر
Polarising	تقطیب گر ـ تقطیبی
Polarity	قطبیت

Pisces (Fishes)	حوت - سمکتین
Piscis Australis (the southern Fish)	حوت جنوبی
Piscis Australis (α Piscis Australis or Fomalhaut)	الف حوت جنوبی
Piston	مشارہ
Pitch (Music)	امتداد
Pitch (Screw)	گھائی
Pith	گودا
Pivot	چول
Pixis Nautica (Mariner's Compass)	بحری قطب نما
Place	مقام
Plane	مستوی - تختہ
Planet	سیارہ
Planetary	سیاروی
Planetoid	سیارہ نما - نجمیہ
Planimeter	مستوی پیما
Plant	کارخانہ
Plasma	پلازمہ
Plastic	ملائم - پلاسٹک
Plasticity	ملائمیت
Plate	تختی - پلیٹ
Play	کھیل
Pleiades	ثریا - پروین

Photophoresis	ضیا برداریت
Photopositive	ضیا مثبت
Photosensitive	ضیا حساس
Photosensitizer	ضیا حساس گر
Photosphere	ضیائی کرہ
Phototropy	ضیا رخی
Photo tube	ضیا نلی
Phurud (or Canis Majoris)	فرد
Physical	طبعی
Physics	طبیعیات
Pictogram	صورت نگارش
Picture	تصویر
Piece wise	ٹکرے ٹکرے - جزوی جزوی
Piezoelectricity	داب برق
Piezoid	داب نما
Piezometer	داب پیما - پیزوپیما
Pile	تودہ - انبار
Pillar	ستون
Pilot	ناخدا - طیارچی
Pinhole	سوئی چھید
Pinion	دت پھرکی
Pinion rack	کٹ گھر - دت پھرکی گھر
Pipe	نل
Pipette	نالچہ

Phonodeik	آوازی تحریر نگار
Phonograph	آواز نگار
Phonometer	آواز پیما
Phosphorescence	فسفریت
Phosphoroscope	فسفر نما
Photo	فوٹو - ضیا (سابقہ)
Photocell	ضیا خانہ
Photoconductive	ضیا ایصال
Photoconductivity	ضیا ایصالیت
Photoelastic	ضیائی لچک - نور لچک
Photoelectric	ضیا برقی - نور برقی
Photoelectricity	ضیا برق
Photoelectron	ضیا برقیہ
Photograph	فوٹو گراف - عکس
Photographic	فوٹو گرافی - عکسی
Photography	فوٹو گرافی - عکاسی
Photomagnetic	ضیا مقناطیسی
Photometer	ضیا پیما
Photometric	ضیا پیمائی (صفت)
Photometry	ضیا پیمائی
Photomicrography	ضیائی خورد نگاری
Photon	فوٹون (ضیائیہ)
Photonuclear	ضیا مرکزائی
Photophone	ضیائی فون - فوٹو فون

Persei (Algol)	راس الغول
Persei (Mirfak)	مرفق - الف برساوس
Persei (Perseus)	برساوس
Perseid	برساوسیہ
Perseus (Caput Medusa)	برساوس
Persist	برقرار رہنا
Persistence	قرار
Perspective	تناسب نظری - تناظر
Perturbation	اضطراب - اختلال
Perturbing	اختلالی
Petrol	پٹرول
Phaet (or Columbae)	فاختہ (کا محرب)
Phase	ہئیت
Phecda (or Ursae Majoris)	فخذ (کا محرب) - دب اکبر کا تیسرا ستارہ
Phenomenon	مظہر
Pherkad	فرقد
Phobos	فوبوس (مریخ کا اندرونی قمر)
Phocaea	فوسی آ
Phoenix (Phenix)	ققنس - فونس
Phon	فان (اکائی)
Phonetic	صوتی
Phonetics	صوتیات
Phonic	صوتی - آوازی

Perforated	سوراخ دار
Peri	اقرب - نقطهٔ راس
Perigee (Perigeum)	حضيض قمر
Perigon	گرد ضلعی
Perihelion	حضیض الشمس
Perimeter	احاطه
Period	دور - دوران
Periodic	دوری
Periodicity	دوریت
Periphery	گهیرا
Periscope	گرد بین
Perisphere	بیرونی کرہ
Permanent	دائمی - دوامی
Permeability	نفوذ پذیری
Permeable	نفوذ پذیر
Permeameter	نفاذ پیما
Permeance	نفادیت
Permeate	نفوذ کرنا
Permittivity	نوعی امالی گنجائش
Permutation	ترتیب
Permutator	رو بدل
Perpendicular	عمود
Perpetual	دوامی - ابدی
Perpetuity	دوام - ابدیت

Pedal	پائیں
Pegasi or ∝ Andromedae	فرع ثانی
Pegasi or Algenib	جناح الفرس
Pegasi or Enif (Enib)	انف الفرس
Pegasi or Homam	هاموم الفرس
Pegasi or Markab	منکب الفرس
Pegasi or Scheat	ساعد الفرس
Pegasus	پردار گھوڑا - فرس مجنح
Pencil	پنسل - شعاع
Pendulum	رقاص - لنگر - پنڈولم - پندولا
Penetration	دخول
Penta	خمسہ - پنج - پانچ
Pentadecagon	پندرہ ضلعی
Pentagon	پنج ضلعی - مخمس
Pentagonal	پانچ ضلعی - مخمسی
Pentane lamp	پنٹین لیمپ
Pentode	پنج قیرہ - پنجیرہ
Penumbra	نیم سایہ - ظل ناقص
Peptization	تسویت ساری
Percent	فی صد
Percentage	فی صد
Percentile	صدیہ
Percussion	رد
Perfect	کامل

Parallelotope	متوازی المقام
Paramagnet	پُر مقناطیس
Paramagnetic	پُر مقناطیسی
Paramagnetism	پُر مقناطیسیت
Parameter	حروح پیما - مقیاس الحروح
Parametric equations	حروح پیما مساوات
Paraxial	متوازی المحور
Parenthesis	قوسین
Parfocal	هم ماسکی
Parity	برادری
Parsec (The unit of the distance at which the parallax is one second)	پرسکڈ
Partial	جزوی
Partially	جزوی طور پر
Particle	ذرہ
Particular	مخصوص - خصوصی
Partition	تقسیم
Parts	حصص - حصے
Patch	پیوند
Path	راستہ
Pavo (the Peacock).	طاؤس
Peak	چوٹی

P

P (Polarisation)	ت (تقطیب)
P (Power)	ط (طاقت)
P (Pressure)	د (دباؤ)
P (Probability)	ا (احتمال)
Pair	جوڑا
Panchromatic	کل رنگی - سب رنگ
Panoramic	وسیع المطری
Parabola	قطع مکافی
Parabolic	مکافی
Paraboloid	مکافی نما
Paradox	تناقض - متناقضہ
Parallactic	اختلاف مطری
Parallax	اختلاف مطر
Parallel	متوازی
Parallelepiped	متوازی السطوح
Parallelity	متواریت
Parallelogram	متوازی الاضلاع
Parallelogram of forces, Law of	قوتوں کے متوازی الاضلاع کا قانون

Osmosis	سرایت - ولوج
Osmotic	ولوجی - سرایتی
— coefficient	ولوجی سر - ولوجی شرح
— pressure	ولوجی دباو
Osophone	سروون
Outlet	مخرج
Output	درآمد
Oval	بیضوی

Orthogonal transformation	عمودی استحالہ ۔ عمودی نقش
— vectors	عمودی سمتیے
Orthonormal	قائم عماد
Oscillate	اهتزار
Oscillating	اهتزاری
— circuit	اهتزاری دوریہ ۔ ارتعاشی دوریہ
— magnet	اهتزاری مقناطیس
— series	اهتزاری سلسلہ
— system	اهتزاری نظام
Oscillation	اهتزار
— , Damped	مقصور اهتزار
— , Forced	جبری اهتزار
— , Free	آزاد اهتزار
— , Modes of	اهتزار کے اسلوب
Oscillator	اهتزاز گر ۔ اهتزازیہ
Oscillatory	اهتزاری
Oscillograph	اهتزار نگار
Oscilloscope	اهتزاز نما
Osculating	تماسی ۔ لثمی
— circle	تماسی دائرہ
— plane	تماسی مستوی
— sphere	تماسی کرہ
Osculation	تماس ۔ لثم
Osmometer	سرایت پیما

Orientation	تشریق
Orifice	سوراخ - ثقبہ
Origin	مبدا
Orion	جبار
Orionids	جباریہ
Orionislor (Al-nilam)	نطام جوزا
— (Bellatrix)	منکب الجوزا
— (Belelgen)	یدالجوزا
— (Canis Major)	کلب الجبار
— (Mintaka)	منطقہ الجوزا
— (Rigel)	رجل الجوزا
Orrery (Planetarium)	آراری (حرکت نما - فلک نما)
Orthobaric	قائم داری
Orthocentre	قائم مرکز - عمودی مرکز
Orthocentric	قائم مرکزی - عمود مرکزی
Orthogonal	قائمتہ الزاویہ - عمودی
— basis	عمودی اساس
— complement	عمودی تکملہ - عمودی متمم
— functions	عمودی تفاعلات
— groups	عمودی گروہ
Orthogonality	قائمیت - عمودیت
Orthogonal matrix	عمودی قالب
— projection	عمودی تظلیل
— system	عمودی نظام
— trajectory	عمودی مرمی

Optical isomerism	مناظری هم ترکیبی
— lantern	مناظری قندیل
— length	مناظری طول
— pyrometer	مناظری حرپیما
— rotation	مناظری گردش
Optics	نوریات - علم المناظر
Optimum	مستحسن - مناسب ترین - احسن
Optometer	بینائی پیما
Optometry	بینا پیمائی
Orb	کره - جرم
— , The Cele's	کرهٔ فلکی
— , The Sun's	جرم شمس
— , The Moon's	جرم قمر
Orbed	کروی
Orbit	مدار
Orbital	مداری
Order	رتبه - درجه
Ordered	مرتب
Order of magnitude	درجهٔ قدر
Ordinary	معمولی - ساده
— differential equations	ساده تفرقی مساواتیں
— ray	معمولی شعاع
— wave	معمولی موج
Ordinate	معین - معینه

Operator, Inverse	معکوس عامل
—, Linear	خطی عامل
—, Matrix	قالب عامل
—, Tensor	تناویہ عامل - تسریہ عامل
—, Unit	اکائی عامل
—, Vector	سمتی عامل
Opiuchus (the Serpent bearer)	حوا - حامل حیہ
Opiuchus (Res Alhague)	راس الحوا
Opiuchus (or Cebalrai)	کلب الراعی
Opposite	متقابلہ
— angle	متقابلہ زاویہ
— charges	متقابلہ بار
— polarity	متقابلہ قطبیت
— side(s)	متقابلہ ضلع (اضلاع)
— vertices	متقابلہ روس
Opposition	تقابل - اختلاف - مخالفت
Optic	نوری - بصری
— axis	نوری یا بصری محور
— nerve	نوری یا بصری عصب
Optical	مناظری
— bench	مناظری تختہ
— disc	مناظری قرص
— image	مناظری خیال - مناظری شبیہ
— instruments	مناظری آلات

Ohm meter	اوهم پیما
Ohm's law	قانون اوهم
Okda	عقده
One-to-one	ایک ' ایک - یک ' یک
One valued	یک قیمتی
Onto (mapping)	پر - در (نقش)
Opacity	غیر شفافی
Opalescence	دودهیاپن
Opalescent	دودهیا
Opaque	غیر شفاف
Open	کهلا
— arc	کهلی قوس
— circuit	کهلا دوره
— interval	کهلا وقفه
— mapping	کهلا نقش نویسی
— set	کهلا دسته
— system	کهلا نظام
Opera glass	آئینه تماشائی
Operation	عمل
Operational	عملی
Operator	عامل
—, Adjoint	شریک عامل
—, Commutative	تقلیبی عامل
—, Differential	تفرقی عامل

Obliquity of the ecliptic	طریق الشمس کا میلان ۔ طریقِ شمسی میلان
Oblong	مسطیل لمبوترا
Observable	قابل مشاہدہ
Observation	مشاہدہ
Observatory	رصد گاہ
Observed	مشہود
Observer	مشاہد
Obtuse	منفرجہ
— angle	زاویہ منفرجہ
— angled triangle	مثلث منفرجۃ الزاویہ
Octade	ہشتیرہ ۔ ثمیرہ
Octagon	مثمن ۔ ہشت ضلعی
Octagonal	ہشت ضلعی
Octahedral	مثمن ۔ ہشت سطحی ۔ ہشت پہلوی
Octahedron	مثمن ۔ ہشت سطحی۔ہشت پہلوی
Octant	ثمن
Octave	ہشتہ
Octet	ہشتہ
Octillion	آکٹی لین (امریکہ میں 10^{27} اور برطانیہ میں 10^{48})
Ocular	چشمی
Odd	طاق
Ohm	اوہم

O

O (Origin)	م (مبدا)
O A S M	ا-ا-س-م (اوہم امپیر سیکنڈ میٹر)
O-Electron	ط-برقیہ
O-Shell	ط-خول
Object	شئے - چیز
Object glass	شیشۂ دہانہ
Objective (Lens)	دہانہ
Oblate	مسطح القطبین (قطبین پر دبا ہوا)
Oblateness	تسطیح
Oblique	مائل
— angle	مائل زاویہ (جو زاویہ قائمہ کا ضعف نہ ہو)
— ascension	صعود مائلہ
— axes	مائل محاور
— coordinates	مائل محددات
— descension	تعرب مائلہ
Obliquity	میلان
— factor	میلانی جزو

Number Real	حقیقی عدد
Numerals	گنتی ۔ شمار ۔ عدد ۔ عددی
—, Arabic	عربی شمار
—, Babylonian	بابلی شمار
—, Egyptians	مصری شمار
—, Roman	رومی شمار
Numeration	عدد شماری ۔ شمار کرنا
Numerator	شمار کنندہ
Numerical	عددی
— aperture	روزن عددی ۔ شگاف عددی
— equation	عددی مساوات
— value	عددی قیمت ۔ عددی قدر
Nut	ڈھبری
Nutation	اهتزار
—, Lunar	قمری اهتزار
—, Monthly	ماهانہ اهتزار
—, In obliquity	اهتزاری میلان
—, Right ascension	اهتزاری صعود مستقیم
—, Solar	شمسی اهتزار

Note	نوٹ - سُر
Nought	صفر
Nozzle	ٹونٹی
Nuclear	مرکزائی
Nucleogenesis	مرکزائی تکوین - مرکزہ زائی
Nucleon	مرکزیہ - نیوکلیان
Nucleonics	مرکزائیات
Nucleus	مرکزہ
Null	صفر - تعدیلی
— matrix	صفری قالب
— method	صفری طریقہ
— point	صفری نقطہ - تعدیلی نقطہ
— set	صفری دستہ - خالی دستہ
— vector	صفری سمتیہ
Nullity	صفریت
Number	عدد
—, Algebraic	الجبرائی عدد
—, Amicable	محبی عدد
—, Cardinal	عظمیہ عدد
—, Complex	ملتف عدد
—, Fractional	کسری عدد
—, Integral	صحیح عدد
—, Irrational	غیر ناطق عدد
—, Ordinal	وصفی عدد - ترتیبی عدد

Nonagon	دوضلعی
Noon	ظہر - نیم روز
—, Apparent	ظاہری ظہر
—, Mean	وسطی ظہر
—, True	حقیقی ظہر
Norm	معیار
Norma	نارمہ - قاعدہ یا مربع اقلیدس
Normal	طبعی
— distribution	طبعی تقسیم
— eye	صحیح نظر
— pressure	طبعی دباو
— state	طبعی حالت
Normalisation	طبعی بنانا
Normalise	طبعی بنانا
North	شمال
— east	شمال مشرق
— end	شمالی سرا
— pole	شمالی قطب - قطب شمالی
— west	شمال مغرب
Northern	شمالی
Northern lights	شمالی روشنی
Northing	شمالیہ (شمالی عرض البلد)
Nosepiece	نوکیہ
Notation	ترقیم

Nil	صفر - کچھ نہیں
— potent	صفر قوہ
— segment	صفر قطع
Nimbus(cloud)	بارشی بادل
Ninth	نویں - نواں
— Power	نویں قوت
Nodal	عقدی
— line	عقدی خط
— points	عقدی نقاط
Node	عقدہ
—, Ascending	عقدہ صعودی
—, Descending	عقدہ زوالی ۔ عقدہ نزولی
— locus	عقدی طریق
Nodoid	عقدہ نما
Noise	شور
Nominal	برائے نام - فرضی
Non -	غیر
— conductor	غیر موصل
— convergent	غیر متقارب - غیر تقاربی
— Euclidean	غیر اقلیدسی
— linear	غیر خطی
— luminous	غیر منور
— singular	غیر نادر - غیر مفرد
— terminating	غیر مختتم

Neutral line	تعدیلی خط
— point	تعدیلی نقطہ
— position	تعدیلی مقام
— surface	تعدیلی سطح
— zone	تعدیلی منطقہ
Neutralisation	تعدیل
Neutralise	تعدیل کرنا
Neutralising brush	تعدیلی برش
— indicator	تعدیلی نمائندہ
— voltage	تعدیلی وولٹیج (وولتاج)
Neutrino	نیوٹرینو
Neutron	نیوٹرون
— fission	نیوٹرون انشقاق ۔ نیوٹرون پارگی
— flux	نیوٹرون بہاؤ (سیلان)
— number	نیوٹرون عدد
New moon	اماوس
Newtonian	نیوٹنی
— force	نیوٹنی قوت
— potential	نیوٹنی قوہ
— telescope	نیوٹنی دوربین
Nibal (or Al Nibali)	نیبال ۔ بہ ارنب
Nickelplating	نکل کاری
Night	رات ۔ شب
— blindness	رتوند

Negative ion	منفی رواں
— nodal points	منفی عقدی نقاط
— plate	منفی تختی - منفی پلیٹ
— pole	منفی قطب
— potential	منفی قوہ
— principal points	منفی نقاط خاص
— proton	منفی پروٹون
— sign	منفی نشان - منفی علامت
— transmission	منفی ترسیل
Neighbourhood	قرب
Nekkar (or Bootis)	نقار
Neon tube	نیون نلی
Nepar (Unit)	نیپر (اکائی)
Nephelometer	کدورت پیما
Nephoscope	سحاب نما
Neptune	نیپچون
Nerve	عصب
Net	جال
— structure	جالی ساخت
Network	جال - جالی کام
Neutral	تعدیلی
— axis	تعدیلی محور
— equilibrium	تعدیلی توازن
— filter	تعدیلی تقطیر - تعدیلی چھلنا

Nabula, Major	سحابہ کبریٰ - کبریٰ سدیم
—, Minor	سحابہ اصغر - اصغر سدیم
—, Planetary	سیاروی سحابہ - سیاروی سدیم
—, Spiral	مرغولہدار سحابہ - لولبی سدیم
—, Variable	متغیر سحابہ - متغیر سدیم
—, Whirlpool	گردابی سحابہ - گردابی سدیم
Nebular	سحابی - سدیمی
— Hypothesis	سحابی مفروضہ
Nebulosity	سحابیت
Nebulous	مبہم - غیر واضح - دھندلا - سحابی
—. matter	دھندلا مادہ - سحابی مادہ
— stars	سحابی ستارے
Necessary (Condition)	ضروری (شرط)
— and sufficient	ضروری اور کافی
Needle point	سوئی سرا
Negative	منفی
— angle	منفی زاویہ
— branch	منفی شاخ
— charge	منفی بار - منفی بھرن
— direction	منفی رخ - منفی سمت
— electron (Negatron)	منفی برقیہ (منفیہ)
— exponent	منفی قوت نما - منفی قوت
— feedback	منفی پس پھیلاو
— glow	منفی دمک

Nativity	زائچہ
Natural	فطری - طبعی - قدرتی
— convection	طبعی حمل
— frequency	طبعی تعدد
— logarithm	طبعی لوکارتم
— magnet	قدرتی مقناطیس - چمک پتھر
— numbers	طبعی اعداد - اعداد (اصلی)
— oscillation	طبعی اہتزار
— period	طبعی دور
— science	فطری سائنس - علم فطری
Nature	فطرت - قدرت
Naught	صفر
Nautical	بحری
— almanac	بحری جنتری
— mile	بحری میل
Neap tide	مد اصغر - مد پست - بھاٹا
Near	نزد - قریب
— field	قریبی میدان
— point	قریبی نقطہ
Nebula	سحابیہ - سدیم
—, Annular	حلقی سحابیہ - حلقی سدیم
—, Elliptic	ناقصی سحابیہ - بیضوی سدیم
—, Irregular	غیر منتظم سحابیہ - غیر منتظم سدیم - بے ڈول سحابیہ

N

N (Nitrogen) — N (نائٹروجن کی علامت)

n (Neutron) — ن (نیوٹرون)

N (Number) — ن (نمبر - عدد)

n (Direction ratio) — ن (رخی نسبت)

N (Avogadro number) — ن (اواگاڈرو عدد)

N (Torque) — ٹ (ٹارک)

N.P D (North Polar Distance)
ش - ق - ف - (شمال قطبی فاصلہ)

N T P. (Normal Temperature and Pressure)
ط - ت - د (طبعی تپش و دباؤ)

Nabla (▽) (Del) — نبلا (▽) (ڈیل)

Nadir — النطیر - سمت القدم - نظیر السمت

Naked eye — خالی آنکھ

Napier — نیپئر

Napkin ring — رومالی حلقہ

Nappe (Conical surface) — چادر (مخروطی سطح)

Nascent — دورانیدہ

Nath (or Tauri) — النطح - قرن الثور

Myopia	کوتاه نظری - قریب نظری
Myria	میریا - ده هرار - دس هزار - دهرار
— meter	میریا میٹر - دهرار میٹر

Multiplicity	ضعفیت
Multiplier	ضارب - مضروب فیہ
Multiply	ضرب دینا
Multiplying factor	ضارب جزو - جزو ضربی
Multipole	کثیر قطبی - متعدد قطبی
Multi-valued function	کثیر قدری تفاعل - ضعف قدری تفاعل
Multi-vibrator	کثیر ارتعاش گر
Mu meson	میو میسون
Muon	میون
Muphrid (or Bootis)	مفرد (الرامح)
Mural circle	دیواری دائرہ
Music	موسیقی
Musical	موسیقیائی - موسیقی
Musical echo	موسیقیائی گونج - موسیقی گونج
— scale	موسیقی پیمانہ
Mutarotation	بدل گردش
Mutual	باہمی - باہم
— conductance	باہم ایصالیت
— energy	باہم توانائی
— impedence	باہم مقاومت
— inductance	باہم امالیت
— interference	باہم تداخل
Mutuality	باہمیت

Moving		متحرک
—	coil	متحرک لچھا
—	conductor	متحرک موصل
—	magnet	متحرک مقناطیس
—	target	متحرک ہدف
Mukhdim (or Wrings)		قدم انعطاف
Multi -		ضعفی - ضعف - کثیر سابقہ
Multi-channel		ضعف راهی - ضعف مرسلی - کثیر راهی
Multi group		ضعف گروهی - کثیر گروهی
Multinomial		ضعف رقمی - کثیر رقمی - کثیرالارقام
Multinomial theorem		مسئلۂ ضعف رقمی
Multi path		ضعف راهی
Multiple		ضعف - اضعاف
—	angles	ضعفی زاویے
—	circuits	ضعفی دوریں
—	integral	متعدد تکملہ - ضعفی تکملہ
—	point	ضعفی نقطہ - متعدد نقطہ
—	reflection	ضعفی انعکاس
—	roots	ضعفی اصلیں - متعدد اصلیں
—	stars	ضعفی نجوم - نجوم متعدد
—	stroke	ضعفی ضرب - ضعفی مار - متعدد مار
Multiplets		ضعفی خطوط
Multiplicand		مضروب
Multiplication		ضرب
—	factor	ضربی جزو

Motion, Diurnal	یومیہ حرکت
— , Equation of	مساوات حرکت
— of rotation	محوری حرکت
— of translation	انتقالی حرکت
— , Oscillatory	اہترازی حرکت
— , Perpetual	دائمی حرکت
— picture	متحرک تصویر
— , Proper	حرکت خاصہ
— , Relative	اضافی حرکت
— , Retrograde	رجعی حرکت ِ قہقری
— , Rotatory	گردشی حرکت
— , Simple Harmonic	سادہ موسیقیائی حرکت
— , Uniform	یکساں حرکت
— , Vibratory	ارتعاشی حرکت
Motor	موٹر - محرکہ
Mountain effect	جبلی اثر
Mountains (Lunar)	جبال (قمر)
Mouthpiece	مہنال
Movable	قابل حرکت
— bridge	قابل حرکت پل
Move	حرکت - تحریک
Movement	حرکت
— , Apparent	ظاہری حرکت
— , Real	حقیقی حرکت

Mono-tropy	یک رخی ـ یک طرفی
Monsoon	مانسون (ماخوذ از موسم)
Month	ماہ ـ مہینہ
— , Anomalisite	ماہ ضعیف
— , Nodical (Dractinic)	عقدی ماہ
— , Sidereal	کوکبی ماہ
— , Sinodical (Synodic, common)	ماہ اقتران
— , Calender	تقویمی ماہ
— , Lunar	قمری ماہ
— , Solar	شمسی ماہ
— , Tropical	اعتدالی ماہ
Moon	قمر ـ چاند
Moon-culminating stars	کوکب مسیر قمر
Morning star	کوکب صبح ـ فجر کا ستارہ (زہرہ)
Mothallah (or Basal or a Tranguli)	راس المثلث
Motion	حرکت
— , Absolute	مطلق حرکت
— , Accelerated	اسراع شدہ حرکت- سریع حرکت
— , Apparent	ظاہری حرکت
— , Backward	رجعی حرکت
— , Compound	مرکب حرکت
— , Constrained	مقید حرکت
— , Curvilinear	منحنی حرکت
— , Direct	راست حرکت

Molecular solution	سالمی محلول
— theory	سالمی نظریہ
— velocity	سالمی رفتار
— weight	سالمی وزن
Molecule	سالمہ
Moment	معیار
— of force	میار قوت
— of inertia	معیار جمود
— of momentum	معیار حرکت کا معیار
Momentum	معیار حرکت - مقدار حرکت
—, Conservation of	بقائے معیار حرکت
Monitor	نگران
Monitoring	نگرانی
Mono-	یک - ایک - واحد
Mono-atomic	یک جوہری
Monoceros	کرگدن - وحید القرن
Monochromatic	یک لونی
Monochrome	یک لون
Monogenic	یک نوعی
Monomer	یک ترکیبیہ
Monomolecular	یک سالمی
Monomorphic	یک وضعی
Monoscope	یک نما (مونوسکوپ)
Monotonic	یک کیفی

Mixed	ملا ھوا
Mixture	آمیزہ
Mizar (mezar)	میزر (آلا ٹ)
Mobile	سیلاں پذیر - متحرک
Mobility	سیلانیت - سیلاں پذیری
Mode	سلوب
Model	نمونہ - ماڈل
Moderating	معتدل کرنا - متوازن کرنا
Moderation	اعتدال گری
Moderator	اعتدال گر - مُعتّدل
Modified	اصلاح شدہ - مناسب کردہ
Modifier	اصلاح گر - مُصلح
Modify	اصلاح کرنا - مناسب کرنا
Modulate	لحن دانا - دمیش کرنا - کمیشنا
Modulated	تلحین شدہ - کمیشہ
Modulation	تلحین - کمیشی
Modulator	مُلحن - کمبیشیا
Modulii	مقیاسات
Modulus (mod)	مقیاس (مق)
— of elasticity	مقیاس لچک
— of rigidity	استواری کا مقیاس
Molecular	سالمی
— attraction	سالمی ک
— number	سالمی عدد

Minor axis	محور اصغر
— circle	دائرہ اصغر
— planet	سیارۂ اصغر
— sixth	اصغر چھٹا
— third	اصغر تیسرا
— tone	چھوٹی سُرتی
Mintaka (or Orionis)	منطقہ (نطاق الجوزا)
Minus	منفی
Minute	منٹ - دقیقہ
Mira (or Mera)	میرہ - قیطوس کا ستارہ
Mirach	مراق
Mirage	سراب
Mirfak (or ∝ Persei)	مرفق
Mirror	آئینہ
— , Concave	مقعر آئینہ - قعری آئینہ
— , Convex	محدب آئینہ - حدبی آئینہ
— galvanometer	آئینہ دار گلون پیما
— glass (scale)	آئینہ‌دار پیمانہ
Mirzum (or Canis Majoris)	مرزم یمانی
Missile	قذیفہ - میزائل
Missing stars	نجوم مفقودہ - گم‌شدہ ستارے
Mist	دھند
Mistuning	بے سُرا کرنا
Mix	ملانا

Microne	مائکرون
Microphone	مائکروفون
Microphonic	مائکروفونی
Microphonism	مائکروفونیت
Microscope	خورد بین
Microscopic	خورد بینی
Microscopium	خوردبینیہ
Microvolts	مائکرو وولٹ - خورد وولٹ
Microwave	خورد موج
Middle	درمیاں
— term	درمیانی رقم
— star (in the tail of great bear)	عناق
Midnight	نصف شب - آدھی رات
Milky Way	کہکشاں
Milli	میلی - ہزار واں
Milli-ampere	میلی امپیر
Milli-bar	میلی بار
Milligram	میلی گرام
Milli-meter	میلی میٹر
Milli-micron	میلی مائکرون
Mimas	می ماس
Miniaturization	اختصاریت
Minimal	اقل - قلیل
Minimum	اصغر - صغیر
Minor	اصغر

Meeoric siderolies	سنگہائے آھنی
— showers	شہابی بوچھار
— swarms	شہابی جھنڈ
Meteorological observaions	میکالیاتی مشاہدات
Meterologist	ماہر میکالیات
Metcorite	شہابہ
Meteoritic constituıon	ترکیب شہابی
Meteorograph	میکال نگار
Meter; metre	میٹر - پیما (لاحقہ)
Meter-candle (Lux)	قندیل پیما - (اکائی) میٹر قندیل
Method	طریقہ
— of divisions	مقسوموں کا طریقہ-طریقہ مقسومات
— of Induction	استقراء کا طریقہ
— of least squares	اقل مربعوں کا طریقہ - طریقہ اقل مربعات
Metone	میتون
Mica	ادرک
Micro	خوردہ - خورد - خرد - خردہ
Micrometer	خوردہ پیما
— screw	خردہ پیما پیچ
— screw gauge	خوردہ پیچ پیما - پیچ ناپ خردہ پیما
Micrometric scope	خرد پیما بین
Micro-micro	خرد خردہ

Mero	کسری - کسر
Meromorphic	کسری وضع۔ کسر وصعی - تحلیلی تماعل
Meromorphism	کسر وضعیت
Merope	(میروب عقود ثریا کا ستارہ)
Mesartim	شرطین اشرط ' مشارتم -
Mesh	جال
— connection	جال کا اتصال
— impedance	جال کی مقاومت
Meta-centre	پس مرکز - مرکز مائعہ
Meta-centric	پس مرکزی
Meta-dyne	پس ڈائن
Metal	دھات
Metallic	دھاتی
Meta-stable	پس قائم - پس قیام پذیر
Met cycle	دور قمر - دور میتون
Meteor	شہاب - شہابہ
— (Aerolites)	حجاز - ہوائیہ
— (Falling stars)	نجوم ساقطہ
— (Fire balls)	کرات ناریہ
— (Shooting stars) - (واحد نیرک)	نیارک ٹوٹتے تارے
— (Detonating)	پھٹتے شہابئے
Meteoric	شہابی
Meteoric stones	سنگہائے شہابی
— siderites	حدید شہابی

Menkalinan (or Aurigae)	منکب ذی العنان
Menkar (or α Ceti)	منقار القیطس
Menkib	منکب الفرس
Mensa	میزه
Menstrual equation	تعدیل ماهانه
Mensuration	مساحت - پیمائش
Merak (or Ursae Majoris)	مراق الدب
Mercury	عطارد - پاره - سیماب
— arc	سیمابی قوس
— gauge	سیمابی مقیاس
— reservoir	سیماب حوض یا حوضک
— thermometer	سیمابی تپش پیما
— thread	سیمابی تار
Meridian	نصف النهار
— altitude	ارتفاع نصف النهار
—, Celestial	سماوی نصف النهار
— circle	دائره نصف النهار
— photometer	نصف النهاری ضیا پیما
— plane	نصف النهاری مستوی
—, Prime	نصف النهار اول
—, Terrestrial	ارضی نصف النهار
Meridional	نصف النهاری
Merit	لیاقت - فضیلت
Mero	کسری - کسر

Measurement	پیمائش - داپ
Mebsuta (or Geminorum)	مسوطہ (دراع)
Mechanic	مستری
Mechanical	میکانی
— advantage	میکانی فائدہ
— equivalent (m)	میکانی معادل (م)
— work	میکانی کام
Mechanics	میکانیات
Mechanism	میکانیت
Mechano-electronic	میکانی برقیاتی
Media	واسطے
Medial	وسطانیہ
Median	وسطانہ
Medium	اوسط - میانہ
Mega	میگا (دس لاکھ) - کبیر
Megaphone	میگا فون - کبیر فون
Megohm	میگوم - دس لاکھ اوم
Megrez (or Ursae Majoris)	مغرز (الدب)
Mekbuda (or Geminorum)	مقبوضہ (دراع)
Melt	پگھلنا
Melting	پگھلاؤ
— point	پگھلاؤ نقطہ - نقطۂ اماعت
Membrane	جھلی
Meniscus	ہلالہ - ہلالی سطح

Maxima	اعظمات
Maxima and Minima of variable stars	نجوم متغیرہ کا کمال (اعظمہ) اور نقص
Maximum	اعظم
Mazzaroth	شعریٰ یمانی
Mean	اوسط
— calorie	اوسط حرارہ
— centre	اوسط مرکز
— curvature	اوسط انحنا
— distance	اوسط فاصلہ
— equinox	اوسط اعتدال
— freepath	اوسط آزاد راہ
— life	اوسط زندگی
— motion	اوسط حرکت
— noon	دوپہر - نیم روز
— obliquity	اوسط میلان
— sidereal	اوسط کوکبی
— solar day	اوسط شمسی یوم
— solar time	وسطی شمسی وقت
— sun	اوسط شمس - آفتاب مجازی
— time	اوسط وقت
— value	اوسط قیمت (قدر)
— velocity	اوسط رفتار
Measure (Circular)	ناپ - پیمانہ (دائری)

Matrix, Commutative	مبادل قالب
– , Complex conjugate	ملتف مزدوج قالب
– , Conformable	موافق قالب
– , Diagonal	وتری قالب - موروب یا مورب
– , Diagonalisation of	قالب کا وترانا
– , Element	قالبی عنصر
– , Elementary	ابتدائی قالب
– , Equivalent	مبادل قالب
– , Hermitian	ہرمیٹی قالب
– , Identity	اکائی قالب
– , Inverse	معکوس قالب
– , Null	صفری قالب
, Orthogonal	قائمی قالب
– , Partitioned	منقسم قالب
– , Permutation	ترتیبی قالب
– , Reciprocal	متکافی قالب
– , Rectangular	مستطیلی قالب
– , Row	صف قالب
– , Singular	نادر قالب
– , Skew-symmetric	کتشاکل قالب
– , Symmetric	تشاکلی قالب
– , Transposed	منقول یا منتقل شدہ قالب
– , Unitary	وحدانی قالب
Matter	مادّہ

Map (Mapping)	نقشه - نقشه سازی
Marconigram	مارکونی پیمام - مارکونی گرام
Marfak	مرفق
Marfik (or Ophiuchi)	مرفق
Markab (or α Pegasi)	منکب الفرس
Markeb	مرکب
Marker antenna	هادی مجسمه
— Beacon	هادی اشاره گاه
Mariner's compass	بحری قطب نما
Mars	مریخ
Marsik or K Herculıs	مرفق جاثی
Mass	کمیت
Massive	جسیم
Masym or Herculis Masim	معصم
Match	مقابله
Matching	تمابل - میلانا
Materıal	مواد - مساله - مادی
Materialistic	مادّی
Materialization	جسم پذیری - ماده پذیری
Mathematics	ریاضی - ریاضیات
Matrix	قالب
—, Adjoint	شریک قالب
—, Associate	ایتلافی قالب

›r diatonic scale	بڑا دو سُرتی پیمانہ
lobe	کلاں لختہ
planet	سیارہ اکبر
segment	قطعہ اکبر
tone	سُرتی اکبر
›rity carrier	اکثریت بردار ۔ اکثریت حامل
eability	ورق پذیری
eable	ورق پذیر
eus	ہتوڑی ۔ مطرقہ
ıs	مالوس
ipulation	کاردستی ۔ دست وری
ocryometer	داب برف پیما
ometer	فشار پیما ۔ داب پیما
Differential	تفرقی داب پیما
Hot-wire	گرم تار داب پیما
Inclined tube	مائل نلی داب پیما
Ionization	رواں ساری داب پیما
ometric	داب پیمائی
flame	داب پیمائی شعلہ
tissa	اعشاریہ لوکارتھم
ıtle	غلاف
ıy-body force	کثیر جسمی قوت ۔ کثیر ذراتی قوت
ıy-valued function	کثیر قیمتی تفاعل

Magnification Angular	زاویائی تکبیر
— , Lateral	جانبی تکبیر
— , Longitudinal	طولی تکبیر
— , Normal	عام تکبیر
— , Optimum	انسب تکبیر
— , Useful	مفید تکبیر
Magnified image	مُکبّر شبیہ۔ مکبر خیال۔ مکبر عکس۔ تکبیر شدہ شبیہ - تکبیری خیال
Magnifier	مکبّر
Magnifying glass	مکبّر شیشہ - تکبیری شیشہ
Magnitude	قدر
— of stars	ستاروں کی قدر
Maia (Ma-ya)	میّا
Main (electrical)	اصلہ - اصل (برقی)
Main contact	اصل تماس
— , Distributing	تقسیمی اصلہ
— gap	اصل فصل
— scale	اصل پیمانہ
Major	اکبر
— axis	محور اکبر
— chord	بڑا تار
— circle	دائرہ اکبر
— contact	اکبر تماس
— cycle	دور اکبر

Magnetic anisotropy	مقناطیسی ناہم اطراویت
— armature	مقناطیسی محافظ (آرمیچر)
— balance	مقناطیسی ترازو
— circuit	مقناطیسی دورہ
— constant	مقناطیسی مستقل
— core	مقناطیسی قلب
— coupling	مقناطیسی جفتہ
— current	مقناطیسی رو
— declination	مقناطیسی میل
— deflection	مقناطیسی انصراف
— difference of potential	مقناطیسی فرق قوہ - مقناطیسی اختلاف قوۃ
— dip	مقناطیسی میلان
— dipole	مقناطیسی دو قطب
— field	مقناطیسی میدان
— flux	مقناطیسی دھاد - مقناطیسی دھاؤ
— focussing	مقناطیسی ماسکانا
— gate	مقناطیسی در - مقناطیسی باب
— hysteresis	مقناطیسی احتباق
— induction	مقناطیسی امالہ
— lag	مقناطیسی تعمیب
— leakage	مقناطیسی رساؤ
— lens	مقناطیسی عدسہ
— lines of force	مقناطیسی خطوط قوت

M

m (Mass)	ک (کمیت)
m (Direction cosine)	م (رخی حیب التمام)
m (slope)	م (میلان - ڈھلان)
Mach	ماک
Machine	مشین
Macro- (Prefix)	کلاں - کبیر (سابقہ)
Macro-molecule	کبیر سالمہ - کلاں سالمہ
Maculae	داغ - دھبہ
Magellani Clouds	ماجلانی سحاب
Magic numbers	طلسمی اعداد - جادو کے اعداد
— lantern	طلسمی یا جادو کی لالٹین - مناظری قندیل
— square	طلسمی مربع - جادو کا مربع
Magnet	مقناطیس
— , Lifting	جَرّی مقناطیس
— , Natural	قدرتی مقناطیس - چمبک پتھر
Magnetic	مقناطیسی
— action	مقناطیسی عمل
— amplifier	مقناطیسی افزون گر

Lux (Unit).	لکس (اکائی)
Luxmeter	لکس پیما
Lynse	وہد (سیاہ گوش)
Lyra	شلیاق - لیرا
Lyrae or Vega	نسر واقع یا الف (شلیاق)
Lyrae or Sheliak	ب شلیاق
Lyrae or Sulaphat	سلحفاة یا ح شلیاق
Lyrae or Aladfar	اظفار
Lyrids	شلیاقیہ

Luminosity curve		خم نوریت (منحنی)
—	function	تفاعل نوریت
—	, Relative	اضافی نوریت
Luminous		نوری یا منور
—	coefficient	نوری شرح
—	efficiency	نوری استعداد
—	emissivity	نوری خروجیت
—	emittance	نوری اخراج
—	flux	نوری نفاد
—	reflectance	نوری انعکاسیت
—	sensitivity	نوری حساسیت
Lunar		قمری
—	calender	قمری تقویم - تقویم قمری
—	cycle	دور قمری - قمری دور
—	distances	قمری فاصلے
—	eclipse	چاند گہن - خسوف
—	month	قمری مہینہ
—	stations or mansions	منازل قمری
—	year	قمری سال
Lunation		قمریہ
Lune		قاش - پھانک
Lunisolar precession		قمر شمسی استقبال
Lupus (the wolf)		سبع (بھیڑیا)
Luster ; Lustre		چمک

Loss, Insertion	ادخالی نقصان
— modulation	نقصانی کم بیشی
Lottery	قرعہ
Loudness (of a tone)	بلندی (سُرتی کی)
— contours	خطوط بلندی ۔ بلندی کے احاطے
— level	بلندی سطح
Loudspeaker	مکبرالصوت - لاؤڈ اسپیکر
Lower limit	زیریں انتہا
Lowest note	پست ترین سر
— visible radiation	ادنیٰ مرئی اشعاع
Lubricant	چکنائی
Lubricate	چکنانا
Lubrication	چکناؤ
Lucida	نیّر
Lumation	قمر کا دور وصعی
Lumen	لیومن
Lumer candree	نور ارض ۔ زمیں تاب
Lumerg (Luminous energy unit)	لومرگ (اکائی)
Luminance	نوریت
Luminescence	نورانیت
Luminiferous	نور آفریں
Luminosity	نوریت
— coefficient	شرح نوریت

Longitude, Celestial	فلکی طول البلد
— , Geocentric	ارض مرکزی طول البلد
— , Geographical	جغرافیائی طول البلد
— , Heliocentric	شمس مرکزی طول البلد
— , Lines of	خطوط طول البلد
— , Terrestrial	ارضی طول البلد
Longitudinal	طولی
— chromatic aberration	طولی لونی کجروی
— magnification	طولی تکبیر
— motion	طولی حرکت
— spherical aberration	طولی کروی کجروی
— stretching	طولی کھنچاؤ
— wave	طولی موج
Longsighted	دور نظر
Loom	کھڈی
Loop	حلقہ
— aerial	حلقہ دار ہوائیہ
— of retrogression	حلقہ رجعت
Loose coupling	ڈھیلا جفتہ
Lorentz factor	لارنز جزو
— field	لارنز میدان
— number	لارنز عدد
Loss	نقصان ۔ گھاٹا
— factor	جزو نقصان ۔ نقصانی جزو

Local action	مقامی عمل
— control	مقامی ضابط ـ مقامی ضبط
— oscillator	مقامی اہتزاز گر
— time	مقامی وقت
Localisation	مقام بندی
Localise	مقام بندی کرنا
Location	جائے وقوع ـ مقام شناسی
Locator	مقام شناس
Locomotive	گرو بندہ ـ جراک
Locus	طریق
Log	لوک
Logarithm	لوکارتم
— , Common	عام لوکارتم
— , Natural	طبعی لوکارتم
Logarithmic	لوکارتمی
— base	لوکارتمی اساس
— decrement	لوکارتمی کمی
— differentiation	لوکارتمی تفرق
— series	لوکارتمی سلسلے
— tables	لوکارتمی جدولیں
Loktal base	لوکتالی قاعدہ
— tube	لوکتالی نلی
Loxodrome	مساوی المیلان
Longitude	طول البلد ـ طول بلد

Linkage	رابطہ
— , Catenary	زنجیری رابطہ
Lion	اسد
Lip	لب
— microphone	لبی مائکروفون
Liquefaction	مائع بنانا ۔ پگھلاؤ ۔ ترقیق
— plant	مائع کار کل ۔ مائع بنانے کی مشین
Liquid	مائع
— column	مائعی ستون
Liter, Litre	لیٹر
Little Bear	دبِ اصغر
Lituus	عصا کی شکل کا منحنی
Live wire	زندہ تار
Load	بوجھ ۔ وزن
— circuit	وزن دورہ
— coil	وزن لچھا
— current	وزن رو
— curve	وزن خم
— factor	وزن جزو
— impedance	وزن مقاومت
— , Inductive	استقرائی وزن
Load Star	نجم القطب
Load Stone	چمک پتھر
Local	مقامی

Linear accelerator	حطی سرعتگر
— algebra	حطی الحبرا
— amplifier	حطی افزوں گر
— array	مستقیم صف - حطی صف
— current	مستقیم رو
— dimensions	طولی ابعاد
— distortion	طولی مسخ
— expansions	طولی پھیلاؤ
— foot	طولی فٹ
— magnification	طولی تکبیر
— motion	حطی حرکت
— object	خطی شئے
— prime	طولی مفرد - حطی مفرد
— range	خطی زد
— scale	خطی پیمانه
— transformation	حطی بدل - حطی استحاله
Linearity	حطیت
— control	حطیت ضابط
Linearly	حطی طور پر
Linger	دیرکرنا - ٹالنا - تعویق
Link	ربط - کڑی
— coupling	ربط جفته
— mechanism	ربط میکانیت
— polygon	ربطی کثیرالاضلاع

Line(s)		خط (خطوط)
—	, Active	عامل خط
—	balance	خطی توازن
—	, Contact	تماسی خط
—	, Equalizer	مساوی‌گر خط
—	, Forbidden	ممنوع خط
—	frequency	خطی تعدد
—	hydrophone	خطی ماءفون
—	induction	خط استقراء
—	integral	خطی تکملہ
—	level	خطی سطح
—	microphone	خطی مائکروفون
—	of action	خط عمل
—	of collimation	خط توازی گری
—	of impact	خط تصاد
—	of the Apsides	خط اوج و حضیض
—	of the nodes	خط عقدتین
—	pair	خطی جوڑا
—	, Parallel	متوازی خطوط
—	spectrum	خطی طیف
—	width	خطی عرض
Linear		خطی
—	absorption coefficient	خطی جذبی سر
—	acceleration	خطی اسراع

Like parallel forces	یکساں متواری قوتیں
— poles	موافق قطب
Lim (Lt.)	نہا
Limacon	گھورنگہا منحنی
Limb	محیط - ساق
Lime	چونا
— water	چونے کا پانی
Limit	انتہا
— of elasticity	لچک کی انتہا
— — proportionality	تناسب کی انتہا
— — resolution	تحلیل کی انتہا
Limiter	نہاگر
— circuit	نہاگر دورہ
— , Double	مزدوج نہاگر
Limiting	انتہائی - نہائی
— angle	انتہائی زاویہ
— current	انتہائی رو
— curves	انتہائی منحنیات
— density	انتہائی کثافت
— equation	انتہائی مساوات
— equilibrium	انتہائی توازن
— friction	انتہائی رگڑ
— points	انتہائی نقطے
— value	انتہائی قیمت

Light modulator	نوری کم بیشہ گر
— , Monochromatic	یک لونی نور - اک رنگی نور
— , Plane-polarized	سطوی مقطب نور
— , Propagation of	اشاعت نور
— , Quantum theory of	کوانٹم نظریۂ نور
— , Reflection of	انعکاس نور
— , Refraction of	انعطاف نور
— sensitive	نوری حساس
— source	منبع نور - مخرج نور
— , Transmitted	منتقلہ نور
— , Velocity of	رفتار نور
— , Wave theory of	نور کا نظریۂ موج
— year	نوری سال
Lightning	بجلی - صاعقہ
— arrester	بجلی روک
— conductor	بجلی موصل
— flash	بجلی کی چمک
— mains	شہہ تار
— surge	سیل صاعقہ
Like	موافق - مشابہ - یکساں
— charges	مشابہ بھرتیں - مشابہ بار
— end	مشابہ سرا
— magnetic poles	یکساں مقناطیسی قطب

Librae (or Zubenal Genubi)	ربانی یا کفہ جنوبی
Librae (or Zubenal Chumali)	ربانی یا کفہ شمالی
Librae (or Zubenal Hakrabi)	ربانی یا کفہ عقربی
Libration	تمایل
Lid	ڈھکن - روک
Life	جان - زندگی - حیات
— annuity	حیاتی سالیانہ
— belt	حیاتی پٹی
— , Half	نصف عمر - نصف حیات
— , Mean	اوسط عمر
Lift	(۱) اٹھانا (۲) لفٹ - بلندگر
— pump	اٹھاؤ پمپ
Lifting magnet	اٹھاؤ مقناطیس
Light	روشنی - نور
— beam	شعاع نور
— Circularly-polarized	دائری منقطب نور
— cone	نوری مخروط
— , Corpuscular theory of	نور کا ذراتی نظریہ
— , Elliptically-polarized	ناقصی منقطب نور
— , Energy of	نور کی توانائی
— equation	نوری مساوات
— filter	نوری تقطیر
— flux	نوری نفاذ
— modulation	نوری کم بیشی

Lenses	عدسے
Lensometer	عدسہ پیما
Lenticular	عدسی
Leo (The Lion)	اسد
Leonis or Regulus or Cor Leonis	قلب اسد
Leonis or Denet Alcet Leonis or Denebola Leonis or Deneb	صرفہ - ذنب الاسد
Leonis or Algeiba	جبهة الاسد
Leonis or Zosma	زهرة الاسد
· Leonis	منكب الاسد
Lepus (The Hare)	ارنب
Leporis or Arneb	الف ارنب
Leporis Nihal (an - Nihal)	نہال - ب ارنب
Level	سطح
— indicator	سطح نما
— width	سطحی عرض
Levelling screw	ہموارگر پیچ
Lever	بیرم
— arm	بیرمی بازو
L'huilierian	لولیری
Libra	میزان
— , First point of	نقطہ اول میزان

Lens, Biconcave دو حوری عدسہ ۔ مقعر طرفین عدسہ

— , Coated تہ چڑھا عدسہ

— combination عدسی اجتماع

— , Compound مرکب عدسہ

— , Concave مقعر عدسہ

— , Converging تقاربی عدسہ

— , Convertible قابل تحویل عدسہ

— , Convex محدب عدسہ

— , Cylindrical استوانی عدسہ

— disk عدسی قرص

— , Diverging انفراجی عدسہ

— , Doubleconcave مقعر طرفین عدسہ ۔ دوحوری عدسہ

— , Field میدانی عدسہ

— , Magnetic مقناطیسی عدسہ

— , Meniscus (Convex-o-concave or Concave-o-convex) ہلالی

— , Metallic دھاتی عدسہ

— power عدسی طاقت

— , Spherical کروی عدسہ

— system عدسی نظام

— , Thick موٹا عدسہ

— , Thin پتلا عدسہ

— , Toric توری عدسہ

Leaf	پتی - ورق
Leak	رسا
Leakage	رساؤ
Leakance	رساویت
Leap	کبیسہ
Leap-year	سال کبیسہ
Lease	اجارہ
Least	اقل - کمترین
— action	اقل عمل - کمترین عمل
— count	اقل شمار - کمترین شمار
— distance	اقل فاصلہ
— energy	اقل توانائی
— square	اقل مربع
— time	اقل وقت
— work	اقل کام
Leaves	پتیاں - اوراق
Left	بائیں - چپ
— hand rule	چپ دستی قاعدہ
— handed	چپ دستی
— — rotation	چپ دستی گردش
Lemma	تمہیدیہ
Lenght	طول
Lens	عدسہ
Lens , Achromatic	بے رنگ عدسہ

Law (s) of distances	کلیہ دواصل
— — distribution	قانون تقسیم
— — floatation	بہاؤ کے قوانین
— — indices	قانون قوت نما
— — inverse square	معکوس مربع کا قانون
— — gravitation	قوانین تجاذب
— — motion	قوانین حرکت
— — radio active decay	تابکاری زوال کا قانون
— — radio active displacement	تابکاری ہٹاؤ کا قانون
— — rational intercepts	ناطقی مقطوعات کے قوانین
— — sines	قوانین جیب
— — thermodynamics	قانون حر حرکیات
Layer	تہ - پرت
— lattice	تہ دار جالی - پرتی جالی
— lines	پرتی خطوط
— structure	تہ‌دار ساخت - پرتی ساخت
Lead	رہنما تار - سیسہ
Leader	رہنما
— stroke	ابتدائی ضرب - اول ضرب
Leading	صدر - فائق
— coefficient	رہنما سر
— element	جزو رئیس

Lateral	جانبی
— aberration	جانبی کجروی
— inversion	جانبی تقلیب
Lath	سلاخ
Latitude	عرض البلد
— , Celestial	سماوی عرض البلد
— , Geocentric	ارض مرکزی عرض البلد
— , Heliocentric	شمس مرکزی عرض البلد
— , Terrestrial	ارضی عرض البلد
— of a star	کوکب کا عرض البلد
— of a planet	سیارہ کا عرض البلد
Lattice	جالی
Latus rectum	وتر خاص
Launch	(۱) لانچ - کشتی (۲) داخل - مامور
Launching	چھوڑنا
Law (s)	قانون (قوانین)
— of appearance	قانون ظاہر
— — areas	قانون رقبہ جات
— — atmospheres	قانون کرہ ہائے ہوائی - دوائر ماں اصول
— — commutation	قانون متبادلہ - قانون مبادلہ
— — composition	قانون ترکیب
— — conservation	قانون بقا
— — cooling	قانون انجماد

Lamellar	پتری دار
Lamina	پترا ۔ ورقہ
Laminar	پتری دار
Lamination	پتراؤ
Lamp	لیمپ ۔ چراغ
— , Arc	قوسی لیمپ
— black	کاجل
— , Electric	برقی لیمپ
— , Filament	ریشہ لیمپ
— , Quartz	کوارٹز لیمپ
— , Spectrum	طیفی لیمپ
Land	خشکی ۔ بر ۔ زمین ۔ ارض ۔ گیتی
Landing	(۱) اترنا ۔ نزول (۲) چبوترا (زینہ کا)
— beam	اتار شعاع ۔ نزولی شعاع
Lantern	لالٹین
Lap	(۱) دامن ۔ گود (۲) (نوریات) فولادی قرص (۳) گھساؤ (پالش سے پہلے)
Laplacian	لیپلاسی
Last	آخری ۔ موخر
Last quarter of moon	چاند کا آخری ربع
Latent	مخفی
Latent heat	حرارت مخفی

L

L (Relative heat constant)	ل (اضافی حرارت کا مستقل)
l (length)	ل (لمبائی - طول)
l (direction ratio)	لہ (رخی نسبت)
λ (Lambda)	لہ (لمبڈا)
Laboratory	تجربہ خانہ - معمل - تجربہ گاہ
— fittings	لوازمات تجربہ خانہ
— system	نظام معمل
Lactometer	شیر پیما
Lady's way	منطقۃ البروج - راہ خدیجہ
Laevorotatory	چپ گردشی
Lag	تعقیب
— , Angle of	تعقیب کا زاویہ
Lagging current	تعقیبی رو
— load	تعقیبی بوجھ
Lagrangian	لیگرانجی
Lalande	لا لاند
Lambda point	لہ نقطہ

Knocked	ٹکرایا ھوا - مارا ھوا
— on-atom	ٹکرایا ھوا جوھر
Known	معلوم
— stars	کواکب معلومہ - معلوم ستارے
Kocab or Ursae Minoris	کوکب شمالی
Korneforos or Herculis	تماثیل
Kronecker delta	کرونیکر صہ - کرونیکر ڈیلٹا
Krypton	کرپٹان

Kinescope	حرک نما
— gun	حرک نماگن
Kinetic	حرکی - بالفعل
— coefficient	حرکی شرح
— energy	حرکی توانائی
— equilibrium	حرکی توازن
— friction	حرکی رگڑ - حرکی فرک
— moment	حرکی معیار اثر
— potential	حرکی قوۃ
— reaction	حرکی تعامل - حرکی رد عمل
— theory	حرکی نظریہ
Kinetics	حرکیات
Kink	بل
Klydonograph	کلیڈونو گراف
Klystron	کلیسٹرون
— , Reflex	انعکاسی کلیسٹرون
— amplifier	کلیسٹرون افزون گر
— frequency multiplier	کلیسٹرون تعدد ضارب
— oscillator	کلیسٹرون اهتزازگر
— repeller	کلیسٹرون دافع
Knife	چاقو
— edge	دھار
— switch	چاقو کھٹکا
Knock	ٹکرانا - مارنا

ickback	واپسی - مراجعت
iffa Australis or a Libra or Zubenal Gunubi	کف جنوبی - زبانی جنوبی
iffa Borealis or Libra or Zubenal Chamali	کف شمالی - زبانی شمالی
ilo	کیلو - ہزار
ilo calori.	کیلو حرارہ
ilocurie	کیلو کیوری
ilogram	کیلو گرام
ilogram meter	کیلوگرام پیما
ilojoule	کیلو جول
ilolitre	کیلو لیٹر
ilometer	کیلو میٹر
ilometric	کیلو میٹری
— waves	کیلو میٹری موجیں / امواج
ilovolt	کیلو وولٹ
— ampere	کیلو وولٹ امپیر
ilowat	کیلو واٹ
— hour	کیلو واٹ گھنٹہ
inematic	حرک ہندسی
— viscosity	حرک ہندسی لزوجت
inematical	حرک ہندسی
— relativity	حرک ہندسی اضافیت
inematics	حرک ہندسہ

ation	ریرروان - ریروان
aus Australis or Saggittaru	قوس حسودی
aus Borealis or ,,	قوس شمالی
aus Media or ,,	قوس رامی
ayser	کیسر
eel	پیندا (حمہار کا)
eeper	محافط
eid or Alkaid or Eridani	قائد
elb-Al-Rai	کلب الراعی
elvinator	سرد آلہ
enotron	کے دوٹرون (ثنوی حلائی دلی)
eratometer	قرنی لا ما سکیت پیما
ernel	قلب (مرکر)
— , Diffusion	نعوذی قلب
— , Group-Diffusion	گروہ نعودی قلب
— , Slowingdown	سست گر قلب
et vector	کیٹ سمتیہ
ev (Kilo electron volts)	کیو - هبو (هرار برقیری وولٹ)
ey	کنجی
— board	کنجی تختہ
— click	کنجی کھڑک
— note	کھرج
ying	کنجی لگانا

K

$\hat{k}$ (Unit vector in Z-direction)	ک̂ (اکائی سمتیہ بہ رخ زی)
k (Thermal conductivity)	ک (حراری موصلیت)
k (Radius of gyration)	ک (گردشی نصف قطر)
k (Boltzmann constant)	ک (بولٹزمان مستقل)
K (Kelvin degree)	ک (کلوِن درجہ)
K (Luminous efficiency)	ک (نوری استعداد)
K (Equilibrium constant)	ک (توازنی مستقل)
K (Curvature)	ک (انحناء)
Kaffaljidhma or Ceti	کف الجذماء
Kaitain or a Pizium	معدة الحيطين یا فم الحوت
Kaleidophone	آواز نما
Kaleidoscope	سیر بین
Kampometer	حر شعاع پیما
Kapnometer	دھند کثافت پیما
Katharometer	حر ایصالی تجزیہ گر
Kathode	منفیرہ
— rays	منفی شعاعیں - منفیری شعاعیں

Joule law	جولی قانون
— Thomson effect	جول ثامسن اثر
Journal	نماسه
Jove	مشتری - هرمز - بهسپت
Jovicentric	مشتری المرکز - مشتری مرکز
Jovigraph	مشتری نگار
Julian calender	تقویم قیصری (رومی)
— period	دور قیصری
— year	قیصری سال
Junction	سنگم
Juno	
Jupiter	مشتری

Jacobian	یعقوبی جیکوبی
Jamin effect	جامین اثر
Jamming	رکاوٹ ڈالنا ـ جام کرنا
Japetus	جاپی توس
Jar	مرتبان ـ استوانہ
Jaws of caliper	[illegible] کے جبڑے
Jet	دوک ـ دھار ـ فوارہ ـ جٹ
— engine	جٹ انجن ـ دھارا انجن
— , Gas	گیس جٹ گیس دھارا
— plane	جٹ جہاز جٹ طیارہ
— propulsion	جٹ دھکیل - دھارا دھکیل
— stream	دھارا رو ـ جٹ رو
— tone	دوک سرتی
Jib (of a crane)	[illegible]
Jib	دارو
Jilter	لاقرار
Jn (x)	ج ن (لا) ـ [illegible] لا
Join	وصل کرنا
Joint	مشترک ـ شریک
Joule (J)	جول (ج)
— cycle	جولی دور
— effect	جولی اثر
— — , Inverse	معکوس جولی اثر
— experiment	جولی تجربہ

J

J (Joule)	ج (جول)
J (Joule mechanical or electrical equivalent of heat)	ج (حرارت کا میکانی یا برقی معادل)
J (Radiant intensity)	ج (اشعاعی شدت)
J (Spectral radiant intensity)	ج (طیفی اشعاعی شدت)
J (Heat transfer factor)	ج (حرارت انتقالی جزو)
J (Electric current density)	ج (برقی روکثافت)
J (Polar moment of inertia)	ج (قطبی معیار جمود)
J (Inner quantum number)	ج (اندرونی کوانٹم عدد)
J (Unit vector in y-direction)	ج (اکائی سمتیہ ما کے رخ پر)
J (Total emmissive power)	ج (کل اخراجی طاقت)
J Antenna	جے مجسمہ (ہوائیہ)
J- J coupling	جے - جے جوڑ (جفتہ)
Jack	جیک
Jacket	غلاف - جیکٹ
Jack screw	جیک پیچ

Isotemperature loci	هم تپس طرانو
Isoteniscope	بحری دباؤ پیما
Isotherm	هم تپس
Isothermal	هم تپس
Istope	هم جا
Isotopic	هم جائی
Isotrimorphism	تہری هم وضعیت
Isotropic	هم اطراف
Isotropism	هم اطرافیت
Isotropy	هم اطرافی
Isobolume	هم حجم
Iterated	تکرار - مکرر
Iterative	تکراری
Iteration	تکرار
Ivory	هاتھی دانت - عاج

Isoelectric	هم درقی
Isoelectronic	هم درقیابی
Isogam	هم اسراعی
Isogonal	هم راوی هم راویه
Isogonic	هم راویه
Isolate	علیحده کرنا - مجرد کرنا
Isolated	مجرد - علیحده
Isolating	تجریدی - مجرد
Isolation	تجرید
Isolux	هم شدت (نوری)
Isomagnetic	هم مقناطیس
Isomer	هم ترکیب
Isomeric	هم ترکیبی - هم ترکیب
Isomerism	هم ترکیبی
Isometric	هم پیمائشی
Isomorph	هم وضع - هم شکل
Isomorphism	هم وضعیت - هم شکلی
Isomorphous	هم وضعی - هم شکل
Iso-osmotic	هم سرایتی
Isoperimetric	هم صولی
Isophot	هم شدت (نوری)
Isopolymorphism	هم کثیر وضعیت - هم کثیر شکلی
Isosceles	مساوی الساقین
— triangle	مساوی الساقین مثلث

Irrationality	غیر ناطقیت - غیر عقلیت
Irreductible	ناقابل تحویل
Irregular	بے قاعدہ - غیر منظم
Irreversible	نارجعت پذیر
Irrotational isentropic	غیر گردشی - ناہمکار
Isentropy	نا ہمکارگی
Isoallobar	ہم غیر خط
Isoallobaric	ہم غیر خطی
Isobar	ہم خط
— , Nuclear	مرکزائی ہم خط
Isobaric	ہم خطی
— space	ہم خطی مکان
Isochroe	ہم پیما
Isochromatic	ہم رنگ
Isochromatism	ہم رنگی
Isochrone	ہم وقت
Isochronism	ہم وقتی
Isochronus	ہم وقت - ہم مد
Isoclinal	ہم میل
Isoclinic	ہم میلانی
Isociaphere	ہم ورقی
Isodimorphism	دوہری ہم وضعیت
Isodispersion	ہم انتشار
Isodynamic	ہم حرکتی

—	, Mean free path	اوسط آزاد راهی رواں ساری
—	, Minimum	اقل رواں ساری
—	potential	رواں ساری قوہ
—	, Specific	نوعی رواں ساری
—	spectrometer	رواں ساری طیف پیما
—	time	رواں ساری وقت
—	, Total	جملہ رواں ساری
Ionizing		رواں سار
—	agent	رواں سار کاریدہ
—	energy	رواں سار توانائی
—	particle	رواں سار ذرہ
Ionosphere		رواں کرہ
Ionospheric		رواں کروی
Ions		روانے
Iridescence		نمائش قوس و قزح - قوس قزحیت
Iridium		ایریڈیم
Iris		پتلی - پردہ عنبیہ
—	diaphragm	پتلی پردہ - پتلی دیافرغمہ - (پتلی ڈایافرا)
Iron		لوہا
—	filing	لوہ چون آہنی برادہ
Irradiation		شعاع دیری
Irrational		غیر ناطق - غیر منطقی - غیر عملی

— trap	رواں پھندا - رواں جال
— yield	رواں یافت
Ionic	روانی
— atmosphere	روانی فضا
— bonds	روانی بند
— charge	روانی بار
— crystals	روانی قلمیں
— equilibrium	روانی توازن
— focussing	روانی ماسکانا
— migration	روانی هجرت
— mobility	روانی سیلان
— potential	روانی قوۃ
— radius	روانی نصف قطر
— strength	روانی مضبوطی
— velocity	روانی رفتار
Ionicity	روانیت
Ionise	روانا
Ionium (Io)	آئیونیم (تھوریم کا هم جا)
Ionization	رواں سازی
— chamber	رواں سازی خانہ
— current	رواں سازی رو
Ionization , Degree of	درجہ رواں سازی
— gauge	رواں سازی کا پیمانہ
— , Gaseous	گیسی رواں سازی

Invert	مقلوب کرنا
Inverted	قلوب - معکوس
— amplifier	مقلوب افزوں گر
— speech	مقلوب دمریر
Invertendo (ratio)	عکس (نسبت)
Inverter	مقلب
Invisible	غیر مرئی
Involute	در پیچہ
Involution	در پیچ
Ion	رواں
— , Amphoteric	دورخہ رواں
— , Aquo	آبی رواں
— beam	رواں شعاع
— burn	رواں داغ
— cluster	رواں جمگھٹ - رواں خوشہ
— , Complex	مرکب رواں - ملتف رواں
— energy	رواں توانائی
— exchange	رواں تبادلہ
— , Hydrated	آبیدہ رواں
— , Molecular	سالمی رواں
— , Negative	منفی رواں
— pair	رواں جوڑا
— , Positive	مثبت رواں
— spot	رواں دھبہ

—	equation	داتی مساوات
—	induction	داتی امالہ
—	mobility	داتی حرکت پدیری
—	pressure	داتی دباؤ
—	properties	داتی خصوصیات
—	viscosity	داتی لزوجت
Inunision		ہمسُر - ہم سُر
Invariable		غیر متغیر - نا متبدل
—	line	غیر متغیر خط
—	plane	غیر متغیر مستوی
Invarient		غیر متغیرہ
Inverse		معکوس - مقلوب
—	electrode current	معکوس برقیری رو
—	hyperbola	معکوس زائد
—	photo-electric effect	معکوس نور برقی اثر
—	point	مقلوب نقطہ
—	probability	مقلوب احتمال
—	proportion	معکوس تناسب
—	ratio	معکوس نسبت
—	square law	قانون معکوس مربع
—	variation	معکوس تغیر
Inversion		تقلیب - انقلاب
—	axis	تقلیبی محور
—	, Centre of	مرکز تقلیب

Interpolation	اندراج
— , Inverse	معکوس اندراج
— , Linear	خطی اندراج
Interpole (Compole, Commulating pole, Compensating pole)	بین قطب
Interrupt	خلل ڈالنا - خلل انداز ہونا
Interruption	خلل
Interruptor	خلل انداز - حائل
Intersection	تقاطع
Intersecting	متقاطع - قطع کرنے والا -
Interstellar	بین الکواکبی
Interstice	درز - شگاف - روزن
Interstitial	روزنی
— ' Atom	روزنی جوہر
— position	روزنی مقام
— structure	روزنی ساخت
Intertropic	بین خطی
Intertropical	بین خطی
Interval	وقفہ
Interval , Closed	بند وقفہ
— , Open	کھلا وقفہ
— , Sound	صوتی وقفہ
Intervalue	بین قدر - بین قیمت
Intrinsic	ذاتی

Interionic attraction theory	بین روانی کششی کلیہ
Interior	داخلی ۔ اندرونی
— planets	اندرونی سیارات
Intermediate	درمیانی
Intermetallic	بین دھاتی
— compound	بین دھاتی مرکب
Intermittence	وقفہ داری
Intermittency	وقفہ داریت
Intermittent	وقفہ دار
Intermodulation	بین کمیشگی
Internal	اندرونی
— combustion engine	اندرونی احتراقی انجن
— conversion	اندرونی تحویل (تقلیب)
International	بین الاقوامی - بین اقوامی
— ampere	بین الاقوامی امپیر
— candle	بین الاقوامی بتی
— joule	بین الاقوامی جول
— ohm	بین الاقوامی اوھم
— system	بین الاقوامی نظام
— temperature scale	بین الاقوامی تپش پیمانہ
— volt	بین الاقوامی وولٹ
— unit	بین الاقوامی اکائی
Interphase	بین ہیئت
Interplanetary	بین سیاری

Intercalary	كبيسه
— days	ايام كبيسه
— month	ماه كبيسه
— year	سال كبيسه
Intercept	مقطوعه
Interchange	مبادله مابين
Intercommunication	مواصلات مابين
Interconnected	بين وصل شده
Interconnecting	بين واصل
Interconnection	بين وصل
Interconnector	بين واصل
Interelectrode	بين برقيره
Interface	بين رخ
Interfacial	بين رخي
Interference	تداخل
— fringes	تداخلی پٹیاں ۔ تداخلی حاشیے ۔
— guard-bands	تداخلی حفاظتی پٹی
— of light	تداخل نور
— , Order of	تداخل کا رتبہ (درجہ)
— spectroscope	تداخلی طیف نما
Interferometer	تداخل پیما
— , Acoustic	صوتی تداخل پیما
— , Optical	مناظری تداخل پیما
Intergrowth	بین نمو

Intensifier	متشدد ۔ تشدید کار
— electrode	برقیری تشدید کار
Intensifying	تشدیدی
— screen	تشدیدی پردہ
Intensitometer	شدت پیما
Intensity	شدت
— difference	شدت کا فرق
— , Electric	برقی شدت
— of gravity	شدت جاذبہ
— level	شدت کی حد (سطح)
— of light	نور کی شدت
— , Luminous	نوری شدت
— method	شدت کا طریقہ
— modulation	شدت کی کمیشی
— of Illumination	تنویری شدت
— of magnetization	مقناؤ کی شدت
— — radiation	شعاع کی شدت
— — radioactivity	تابکاری کی شدت
— — sound	صوتی شدت
— , Radiant	نورانی شدت
Interaction	بین عمل
— representation	بین عمل تصویر
— space	بین عمل مکان
Intercalation	اضافہ ۔ ایام کبیسہ

— , Logarithmic	لوگارتمی تکملہ
— , Multiple	کثیرالعمل تکملہ
— , Particular	مخصوص تکملہ
— , Sine	جیبی تکملہ
— , Space	مکانی تکملہ
Integral , Surface	سطحی تکملہ
— transformation	تکملی تبدل
— , Triple	تہرا تکمل
— , Volume	حجمی تکمل
Integrand	متکمل
Integraph	تکملی مرسام - تکملی رسمہ
Integrate	تکمل کرنا
Integrating	تکملی
— circuit	تکملی دور
— factor	تکملی جزو
— frequency-meter (تکمل‌تعدد)	تکملی تعدد پیما
Integration	تکمل
— by part	تکمل بالجزو
— by substitution	تکمل بالبدل
— by partial fractions	تکمل بالجزوی کسور
— , Graphical	ترسیمی تکمل
Integrator	تکمل کار
Intensification	تشدید - شدت

Insulating	محافظ - حاجز
Insulation	حجزا - محجوزیت - حجوز محافظت
— , Electric	برقی حجوز - برقی حجب
— resistance	حجوری مزاحمت - حجبی مزاحمت
Insulator	حاجب - محافظ - حاجز
— , Electric	برقی حاجب - برقی حاجز
— , Metallic	دھاتی حاجب - دھاتی حاجز
Integer	عدد صحیح
Integrable	قابل تکمل
Integral	تکملہ - تکملی تکمیل
— calculus	تکملی احصاء
— , Circulatory	دورانی تکملہ
— , Contour	حصاری تکملہ
— , Cosine	جیب التمامی تکملہ
— , Definite	محدود تکملہ - معین تکملہ
— , Double	دوہرا تکملہ
— , Elliptic	د قصی تکملہ
— equation	تکملی مساوات
— , Exponential	قوت نمائی تکملہ
— function	تکملی تفاعل
— , Improper	نا مناسب تکملہ
— , Indefinite	غیر معین تکملہ
— , Infinite	غیر محدود تکملہ
— , Line	خطی تکملہ

Installation		تنصیب ۔
Instalment		قسط
Instant		آن ۔ لمحہ
Instantaneous		فوری ۔ آناً فاناً
—	axis	فوری محور
—	centre	فوری مرکز
—	constant	فوری مستقل
—	current	فوری رو
—	disc	فوری قرص
—	frequency	فوری تعدد
—	recording	فوری نگارش
—	value	فوری قدر ۔ فوری قیمت
Instruction		ہدایت
—	code	ہدایتی ضابطہ ۔ ہدایت نامہ
Instrument		آلہ ۔ اوزار
—	, Measuring	پیمائشی آلہ
—	transformer	آلاتی بدلگر
insulance		محجوبیت
Insulate		محجوب کرنا ۔ محصور کرنا ۔ محفوظ کرنا
Insulated		محجوب ۔ محصور ۔ محفوظ
—	cylinder	محجوب استوانہ ۔ محصور استوانہ
—	sphere	محجوب کرہ ۔ محصور کرہ
—	stand	محجوب استادہ ۔ محصور استادہ
—	wire	محجوب تار ۔ محصور تار

— quantum number اندرونی کوانٹم عدد

In apposition بالمقابل ۔ مقابلہ میں

In parallel ہمتوازی ۔ ہم متوازی

In phase ہم ہیئتی

In put درآمد ۔ لی

— capacitance درآمدی برقی گنجائش

— equipment درآمدی سازو سامان

— impedance درآمدی مقاومت

— resonator درآمدی گمکیہ

— transcriber اندر دانا

Inscribe اندراج کرنا ۔ نقش کرنا ۔ کھودنا ۔ درنویسی

Inscribed circle اندرونی دائرہ ۔ درنوشتہ

Inscriber (In + scriber) درنویس

Inseries ہم سلسلہ ۔ ہمسلسلہ

Insert داخل کرنا ۔ درج کرنا

Insertion ادخال

— gain ادخالی نفع

— loss ادخالی نقصان

— power ادخالی طاقت

— voltage ادخالی وولٹیج

Inside اندر

Insolation شمسی اشعاع حرارت ۔ تشمس ۔ آفتاب زدگی

Instable غیر قائم

Instability غیر قائم پذیری ۔ نا قائم پذیری

— series	لامتناهی سلسلہ
Infinitesimal (s)	صغاری ۔ صغاریات
Inflexion (Inflection)	عطف ۔ موڑ
Influence	تاثیر
Influence machine	تاثیری مشین
Influences, Happy	تاثیرات سعد
— , Unhappy	تاثیرات نحس
Influences (of stars)	تاثیرات (ستاروں)
Infra-black region	زیریں سیاہ خطہ
Infra-red	ماتیں سرخ - زیر سرخ
— absorption	زیریں سرخ جذب
— radiation	زیر سرخ اشعاع
Infra sonic	زیر صوتی
Ingress or Egress	دخول یا خراج
Inherent	ذاتی - جبلی
Inhibition	امتناع
Inhibitor	مانع
Inhomogeneous	غیر متجانس
Inhour	اناور (مرکزائی تعملیت کی اکائی)
Initial	ابتدائی
Inject	داخل کرنا
Injection	دخول ۔ انجکشن ۔ دخال
— grid	دخولی جالی
Inner	اندرونی

— post	امالی سلاخ - امالی چوب
Inductomeric effect	امالاتی اثر
Inductometer	امالہ پیما
Inductor	امالہ گر
Indus	انڈس ۔ ایک جدید جنوبی صورت
Inefficiency	بے استعدادی - ناکارکردگی
Inefficient	بے استعداد - ناکارکرد
Inelastic	بے لچک
— collision	بے لچک ٹکراؤ
— scattering	بے لچک بکھراؤ
Inequality	نابرابری - عدم مساویت - لاتساوی
— of bore	سوراخ کی نابرابری (عدم مساویت)
Inequalities	لاتساویات - عدم مساویت
Inert	جامد
Inertance	جمود
— , Acoustic	صوتی جمود
— , Specific	نوعی جمود
Inertia	جمود
Inextensible	امتداد ناپذیر
— cord	ان کھچ ڈورا ۔ ناقابل امتداد ڈورا
Inferior (Planets)	سیارات سفلیہ
— limits	ادنی حدود
Infinite	لامتناہی - غیر محدود
— limits	لامتناہی حدود

— polarization	امالی تقطیب
— radioactivity	امالی تابکاری
— vibration	امالی ارتعاش
Inducing	امالہ انگیز
Inductance	امالہ - امالیت
— , Critical	فاصل امالیت
— , Incremental	صعودی امالہ
Induction	امالہ - استقراء
— accelerator	امالہ اسراع گر
— coil	امالی لچھا
— effect	اثر امالہ
— field	میدان امالہ
— heating	امالہ گرماؤ
— , Intrinsic	ذاتی امالہ
— machine	امالی مشین
— , Magnetic	مقناطیسی امالہ
— , Mathematical	ریاضیاتی امالہ
— , Nuclear	مرکزائی امالہ
— , Residual	بقیہ امالہ
— theorem	امالی مسئلہ اساسی
— watt hour meter	امالی واٹ ساعت پیما
Inductive	امالہ انگیز
— feedback	امالی پس کھلاؤ
— load	امالی بوجھ

— error	قوت نمائی خطا
— glass	نمائندہ شیشہ
— law	قانون قوت نما
— of modulation	نمائندہ کم بیشی
Index of refraction	انعطاف کا نمائندہ
— — —, Complex	انعطاف کا مرکب نمائندہ
— — —, Modified	انعطاف کا ترمیمی نمائندہ
—, Refractive	انعطاف نما
Indicate	بتانا - نشاندہی
Indicating instrument	مظہاری آلہ
Indication (s)	نشانات آثار
Indicator	نمائندہ - مظہر
— diagram	مظہاری نقشہ
Indicial	قوت نما
Indigo (colour)	نیلا (رنگ)
Indirect	بالواسطہ
Indistinct	غیر واضح
Indivisible	نا تقسیم پذیر - غیر منقسم
Indivisibility	نا تقسیم پذیری
Induce	امالہ کرنا
Induced	امالی
— charge	امالی بھرن (بار)
— current	امالی رو
— noise	امالی شور

Incoherent	ناپیوستہ
Incompressible	داب ناپذیر
Incompressible volume	داب ناپذیر حجم
Incompressibility	داب ناپذیری۔ لچک ناپذیری
Incommensurable	متباین
— number	متباین عدد
— roots	متباین اصلیں
Incongruent	غیر منطبق
Inconsistent	غیر مطابق - متناقض
Increase	کمال (قمر)
Incremental inductance	اضافی امالہ
— permeability	اضافی نفوذ پذیری -
Incus	سندان - نہائی
Indefinite integral	نامحدود تکملہ
Independent	آزاد
— fission yield	آزاد پارگی حاصل۔ آزاد انشقاقی حاصل
— (Variable)	متبوع (متغیر)
— day numbers	غیر تابع یومی اعداد
Indeterminate	غیر معین ۔ نامعلوم
— equations	نامعلوم مساواتیں
— form	نامعلوم صورت
— structure	نامعلوم ساخت ۔ غیر معین ساخت
Index	نمائندہ - قوت نما

Impulsive (Force)	متحرکہ (قوت) دھکے دار
— tension	دھکا تناؤ
Impurity	لوث ۔ الائش
— , Acceptor	قبولندہ الائش
— , Chemical	کیمیائی لوث
— , Donor	دہندہ لوث
— , Hardening	سختی آور لوث
— levels	لوثی سطحیں
In parallel	متوازی
Inactive	غیر عامل
Incandescent	تاباں ۔ سفید ۔ روشن
— wire	تاباں تار ۔ دھکتا تار
Inch	انچ
Incentre	اندرون مرکز ۔ در مرکز
Incidence	وقوع
— , Angle of	زاویہ وقوع
Incident	واقع
— ray	شعاع واقع
Incircuit	اندرونی حلقہ ۔ در حلقہ
Incline	میلان ۔ مائلہ
Inclined plane	مائل سطح ۔ مائل مستوی
Inclination	میلان
— of orbit	میلان مدار
Inclinometer	میلان پیما

— level	سطح مقاومت
Impedance , Synchronous	هم وقت مقاومت
— , Transfer	تبادل مقاومت
— , Wave	موجی مقاومت
Impedometer	مقاومت پیما
Impedor	مقاوم (ایک دوری عنصر)
Impenetrable	دخول ناپذیری - غیر متداخل
Impeneteribility	دخول ناپذیری
Imperfect	ناقص
— vacuum	ناقص خلا
Imperfection in solids	نقص ٹھوس اجسام کا
Imperial standard (of pound)	شاہی معیار (پونڈ کا)
Implicit	مضمر
Implode	در دھماکہ
Importance factor, Nuclear	مرکزائی جزو اہمیت
Impregnation	لبریز کرنا - بھرنا - تلقیح (ایک شئے کا دوسری شے میں ذراتی طور پر)
Impregnated carbon	تلقیحی کاربن - بھرا کاربن
— gas-pressure cable	تلقیحی گیسی دباؤ طناب (حبل)
Impressed forces	عاملہ قوتیں
Impression	ارتسام
Impulse	تحریک - دھکا - صدمہ
— turbine	دھکا تربین

— , Method of	شبیہ کا طریقۂ کار
— , Point	نقطۂ شبیہ
Imaginary	خیالی
— number	خیالی عدد
— quantities	مقادیر خیالی ۔ خیالی مقداریں
Imbibition	امتصاص ۔ انجذاب
Immersion	ڈباؤ ۔ غوطہ ۔ استغراق
— objective	غرقی دہانہ
Impact	ٹکر ۔ تصادم
— , Elastic	لچکی تصادم
— excitation	تصادمی آکساہٹ ۔ آکساوا
— parameter	مقیاس الخروج تصادم
— , Plastic	ملائم تصادم
— radiation	تصادمی اشعاع
Impedance	مقاومت
— acoustics	مقاومتی صوتیات
— , Blocked	محصور مقاومت
— circle	مقاومتی دائرہ
— , Free	آزاد مقاومت
— , — motional	آزاد حرکتی مقاومت
— , Input	درآمدی مقاومت
— , Iterative	تکراری مقاومت
— , Loaded	بوجھہ دار مقاومت ۔ بھری مقاومت

— noise	اشتعالی شور ـ
— point	اشتعالی نقطہ ـ نقطۂ اشتعال
Ignitron	آتشمزہ (آتشی آمیرہ)
Iklil (aljebha or Scorpu)	اکلیل
Illinium	ایلینم (ایک دھاتی عنصر)
Illuminance (Illumination)	تنویر
Illuminant, Standard	معیاری منیر
Illumination	تنویر
Illuminating power	طاقت تنویر ـ تنویری طاقت
Illuminometer	تنویر پیما
Illustrative example	توضیحی مثالیں
Image	شبیہ ـ خیال
— admittance	شبیہی داخلہ
— antenna	شبیہی محسہ
— attenuation	شبیہی تلطیف
— charge	شبیہی بار
— dissector	تشبیہ قاطع
— , Inverted	الٹی شبیہ ـ الٹا خیال
— ratio	تشبیہی نسبت
— , Real	حقیقی شبیہ
— reconstructor	باز معمار شبیہی (کائی نسکوپ)
— responce	شبیہی جواب
— vidicon	شبیہ ویڈی کون (دور نمائی کیمرہ)
— , Virtual	مجازی شبیہ

Ice point	نقطہ برف
Ice water	برف کا پانی - برفاب
Iconoscope	تمثال نما
— , Image	شبیہ تمثال نما
Iconotron (See image iconoscope)	شبیہ تمثال نما
Icosahedron	بست سطحی
Ideal	کامل - خیالی - مثالی - مقصود
Ideal gas	مثالی گیس
Ideal solution	مثالی محلول
Ideal transducer	مثالی مبدل
Ideal transformer	مثالی بدلگر
Idealistic	مثالی
Idempotent	ہوالقوۃ (وہی قوت)
Identity	مساوات - متماثلہ - تماثل - شباہت
— period	وقفہ تماثل
Identical	مماثل یکساں -
Idiochromatic	خود رنگ - واضح رنگی - ذات رنگ
Idiomorphous	ذات شکلی - ذات وضع
Idle (Current)	بچولی (رو)
— wheel (Horologes)	بچولا پہیا (گھڑی ساز)
Idling (Engines)	سست روی (انجنوں کی)
Igniter rod	جلانے والی سلاخ
Ignition	جلنا - جلانا - مشتعل کرنا یا ہونا

I

I (A real amount of inertia)	ح
I (Acoustic intensity)	ش
I (Ionic factor)	ر
I (Nuclear mechanical magnetic moment or spin quantum number)	آ
I (Candle power or luminous intensity)	ش
I (Gibb's equation)	آ
I (Intensity)	ش (شدت)
I (Imaginary unit, $\sqrt{-1}$)	ا
I (Angle of incidence)	و
Iapetus	یاپی تس
Ibne Jounis	ابن یونس
Ice	برف - یخ
Ice berg	یختودا ۔ یخکوہ
Ice crystal cloud	برف قلمی بادل
Ice land spar	آئس لینڈ اسپار (ایک قسم کا شفاف چونا) کیلسائٹ
Ice line	برف خط - خط برف

Hypothesis	مفروضہ - قیاس
Hypothetical	مفروضہ - فرضی
— load	فرضی بوجھ
Hypsometer	بلندی پیما - ارتفاع پیما
Hysteresis	احتناق
— distortion	احتناقی مسخ
— , Dilectric	دی برقی احتناق
— loop	احتناقی حلقہ
— loss	احتناقی نقصان
— , Magnatic	مقناطیسی احتناق
— , Rotational	گردشی احتناق
— , Torsional	مروڑی احتناق

Hydrus	حیۃ الماء
Hygrometer	رطوبت پیما
Hygrometric	رطوبت پیمائی
Hygrometry	رطوبت پیمائی
Hygroscope	رطوبت نما -
Hygroscopic	نمگیر
Hyperbola	قطع زائد ـ ہذلول
— of one sheet	ایک چادری زائد نما
— — two sheets	دو چادری زائد نما
Hyperbolic	زائدی یا ہذلولی
— comet	زائدی دم دار تارے (جھاڑو تارے)
— function	زائدی یا ہذلولی تفاعل
— logarithm	زائدی یا ہذلولی لوگارتم
Hyperbolic substitution	زائدی ابدال ـ زائدی بدل
Hyperfine	بالا باریک
Hypergeometric	اعلیٰ ہندسی
— series	اعلیٰ ہندسی سلسلہ
Hyperion	ہائی پی ریاں (زحل کا چاند)
Hypermetropia	دراز نظری
Hypermetropic	دراز نظر
Hypersensitive	بالا حسی
Hypocycloid	زائدی خط تدویر
Hypocyloidal	زائدی خط تدویری
Hypotenuse	وتر (پیش قائمہ)

— radius	ماقوائی نصف قطر
— transmission	ماقوائی (انتقال) ترسیل
Hydraulics	ماقوائیات
Hydrodynamical	ما حرکی
Hydrodynamics	ما حرکیات
Hydrokinetics	ما حرکیات
Hydrokinematics	ما حرکت مجردہ ـ ماحرکت نگاری
Hydromechanics	ما میکانیات
Hydrometeors	ما شہابئے
Hydropathic establishment	آبی شفاخانہ
Hydrophone	حل فون ـ مافون ـ آب فون
— , Directional	سمتی مافون ـ سمتی آب فون
— , Line	خطی مافون ـ خطی آب فون
— , Split	ورقی مافون ـ تگافی آب فون ـ ورقی آب فون
Hydroscope	آب نما
Hydrosphere	آبی کرہ
Hydrostatic	ما سکونی
— analogy	ما سکونی مماثلت
— balance	آب سکونی میزان ـ ما سکونی ترازو
— paradox	آبی یا ما سکونی تضاد ـ سکونی سیالات کا محال مجسم
— pressure	ماسکونی دباؤ
Hydrostatics	ماسکونیات

Hum	بھنبھنانا
Humid	مرطوب
Humidification	مرطوبانا ۔ مرطوباؤ
Humidity	مرطوبیت
— , Absolute	مطلق مرطوبیت
— , Relative	اضافی مرطوبیت
Hunter's moon	بدر صیاد
Hunting	ہلنا
Hurricane	طوفان باد و باراں
Hyades	ہائڈس
Hybrid	پیوندی ۔ دوغلا
— coil	پیوندی لچھا
— junction	پیوندی سنگم
— ring	پیوندی حلقہ
— transformer	پیوندی بدل گر
Hydra	حیہ ۔ شجاع
Hydrae (of Alfard or Cor Hydrae)	فرد (الف شجاع)
Hydrated	آبیدہ
Hydraulic	ماقوائی ۔ آبی ۔ مائی
— accumulator	
— lift	ماقوائی مرفاع
— machine	ماقوائی مشین
— press	ماقوائی یا آبی شکنجہ

— , Hypex	اعلیٰ قرن ـ اعلیٰ قرنا
— mouth	قرنی دھانہ
— radiator	قرنی شعاع ریز
— sectoral	قطاعی قرن
Horologe	ساعت نما - گھڑی
Horoscope	طالع ـ زائچہ
Horsepower (H P)	گھوڑا طاقت - اسپی طاقت (ا ـ ط)
Horseshoe	نعل ـ گھوڑ نعل
— magnet	نعلی مقناطیس ـ گھڑنعلی مقناطیس
Hose	نلکا ـ جراب
Hot	گرم
— cathode	گرم منفرہ
— wire	گرم تار
— — instrument	گرم تار آلہ
Hotness	گرمی
Hour	ساعت ـ گھنٹہ
— , Ampere	امپیری ساعت
— angle	ساعتی زاویہ
— , Kilometer	کیلو میٹر ساعت
— , Watt	واٹ گھنٹہ
Hub	مرکز (پہیئے کا) ھب - توی
Hue	رنگ
— control	رنگ ضابط

— glass	افقی شیشه
— , Oblique	افق مائل
— parallax	افقی اختلاف منظر
— , Parallel	متوازی افق
— , Physical	طبعی افق
— plane	افقی مستوی
— , Rational	ناطقی افق - عقلی افق
— , Real	حقیقی افق
— , Right	افق مستقیم - افق راست- استوائی افق
— , Sensible	حسی افق
Horizan, True	حقیقی افق
— , Visible	مرئی افق
Horizantal	افقی
— line	افقی خط
— parallex	افقی اختلاف منظر
— plane	افقی سطح
Horn	سینگ- قرن - قرنا - صور
— , Acoustic	صوتیاتی قرن
— , Biconical	دو مخروطی قرن
— , Compound	مرکب قرن
— , Conical	مخروطی قرن
— , Exponential	قرن قوت نما
— , Folded	خمیده قرن
— gap	قرنی فصل

— solids	متحانس ٹھوس
— strain	متحانس تحریف ۔ متحانس وساد
Homographic	هم رسم
— transformation	هم رسم استحاله
Homologous	هم وصف
Homology	هم وصفیت
Homometric	هم میتری
Homomorphic	هم وصفی
Homomorphism	هم وصفیت
Homopolar	هم قطبی
Homopolar crystals	هم قطبی قلم
— generators	هم قطبی جنک ۔ هم قطبی مکنٹوں
Homothetic	هم وضح
— comb coil	ربوری لچها
Hoop	چکر
Horary	ساعتی
— circle	ساعتی دائره
— motion	ساعتی حرکت ۔ ساعت واری حرکت
Horizan	افق
— , Apparent	افق مرئی ۔ ظاهری افق ۔ افق ظاهری
— , Artificial	مصنوعی افق ۔ افق مصنوعی
— , Astronomical	افق هیئتی
— , Celestial	افق سماوی

Holder	گیرنده ۔ گیر
Holding	گرفت ۔ گیرائی ۔ ذخیرہ
— anode	گرفت مثبیرہ
Holding beam	گیرائی سلاخ
Hole	سوراخ ۔ چھید
Hollow (n. and a)	کھوکھلا ۔ کھوکھد
Hollowness	کھوکھلا پن
Holmium	ہولمیئم
Holohedral	کل سطحی
Holomorphic	کل وضعی
Holonomous	جامع الاسم
Homan pegasi	ہاموم
Homocentric	ہم مرکز۔ ہم مرکزی
Homogenity	مجانست
Homogenous	ہم جنس ۔ متجانس
— deformation	متجانس مسخ ۔ متجانس تبدیل صورت
— equations	متجانس مساوات
— expression	متجانس جملہ
— fluid	متجانس سیال
— function	متجانس تفاعل
— linear	متجانس خطی
— products	متجانس حاصل ضرب
— rod	متجانس سلاخ

— pressure	اعلی دباو
— speed	اعلی چال
— voltage	اعلی وولٹیج
— tensin	اعلی قوۃ
— tone	اعلی سُرای
Hilbert space	هلبرٹی مکاں
— Transformation	هلبرٹی تبادله
Hill and dale recording	نشیب و فرازی نگارش
Hinderance	رکاوٹ ۔ رخنه
Hinge	قبضه
— carrier	قبضه بردار
Hipparchus	ابر حس ۔ ابر حس
Hiss	سیسیانا
Hissing	سیسیاتا
Hoar frost	پالا
Hodograph	طریق نگار (حم) رسم الطریق
Hodometer	طریق پیما مسافت پیما
Hodoscope	طریق نما ۔ مسافت نما
Hoist	اٹھانا ۔ بلند کرنا
Hoisting	اٹھانا
— tackle	اٹھا و سامان
Hold	گرفت - پکڑنا۔ پکڑ ۔
— control	گرفت ناظم
— on coil	لچھے پرگرفت ۔ برلچھا گرفت

Hermitian matrix	ہرمیشی قالب ۔ ہیرمشی گود
Hermitian operator	ہرمیشی عامل
Hessian	ہسیوی
Heterodyne	ناہم ڈائن
Heteroion	ناہم رواں ۔ دگررواں
Heterostatic	ناہم سکونی
Heterogenous	ناہم حس ۔ غیر متجانس
— fluid	غیر متجانس سیال
— reactor	غیر متجانس تعامل گر
— strain	غیر متجانس دگاڑ
Heterogenety	ناہم حسیت
Heterotopic	ناہم جائی ۔ دگر جائی
Hexgon	شش ضلعی ۔ مسدس
Hexgonal	شش ضلع
Hexhedron	شش سطحی
Hexode	سد سیرہ (سدسی برقیرہ)
High	اعلیٰ ۔ اونچا
— — definition	اعلیٰ وضاحت
— efficiency	اعلیٰ کارکردگی
— elasticity	اعلیٰ لچک
— fidelity (Hi-Fi)	اعلیٰ صداقت (ا ۔ ص)
— frequency	اعلیٰ تعدد
— level	اعلیٰ سطحی
— note	اعلیٰ سُر

Helicoid	پیچ سا - مرغولہ سا
Heliograph	شمس نگار - سورج نگار
Heliometer	شمس پیما
Helioscope	شمس نما
Heliostat	سورج قرار
Heliotrope	آلہ آفتاب پرست
Helium	ہی - لیئم - ہیلیم
Helix	مرغولہ
Hemera photometer	ہیمیرا ضیاء پیما
Hemicolloid	نیم لسونت
Hemihedral	نصف سطحی
Hemihedrity	نصف سطحیت
Hemisphere	نیم کرہ - نصف کرہ
Hemispherical	نیم کروی - نصف کروی
Heptagon	مسبع - سات ضلعی
Heptode	سبعیرہ - ہفتیرہ
Hercules	ہر قلس - رقاص
— or Ras Algethi	راس الجاثی
— or Kornefores	تماثیل
— Masym	معصم
Heredity	توارث
— coefficient	شرح توارث
Hermetic seal	کیمیاوی مہر
Hermetically sealed	کیمیائی مہر شدہ

— element	حرارتی جزو
— , Induction	امالی گرماؤ
— resistance	حرارتی مزاحمت
— station	حرارتی مستقر
— value	حرارتی قدر
Heaven	سما - فلک
Heavenly Bodies	اجسام فلکی - اجسام سماوی
Heavy	بھاری
Hebe	ہی بی - ہیب (سیارچہ)
Hecto	سو - صد
Hectogram	سو گرام
Hectometer	سو میٹر
Hectometric	سو میٹری
Hedral	سطحی
Height	بلندی - اونچائی
Heliacal	شمسی
— longitude	شمسی طول البلد
— rising	شمسی طلوع
— setting	شمسی غروب
Helical	مرغولی
— block	مرغولی کندہ - مرغولی بلاک
— groove	مرغولی نالی
— spring	مرغولی کمانی
Heliocentric	شمس مرکزی

— — ionization	رواں ساری کی حرارت
— — linkage	حرارت رابطہ
— — neutralization	تعدیل کی حرارت
— — solidification	نجمد کی حرارت
— — solution	حرارت محلول
— — — , Differential	محلول کی تفرقی حرارت
— — — , Integral	محلول کی تکملی حرارت
— — sublimation	حرارت تصعید
— — — , Latent	مخفی حرارت تصعید
— — transition	عبوری حرارت ۔ عبور کی حرارت
— — Vapourization	حرارت تبخیر
— propagation	اشاعت حرارت
— pump	حرارتی پمپ
— , Specific	نوعی حرارت
— transfer	انتقال حرارت
— — coefficient	شرح انتقال حرارت
— unit	حرارت کی اکائی
Heater	گرمالہ ۔ گرم آلہ
— current	گرمالہ رو
— tube	گرمالہ نلی
— voltage	گرمالہ وولٹیج
Heating	گرمانا ۔ گرماؤ
— , Dielectric	بین برقی گرماؤ
— effect	گرماؤ کا اثر ۔ حرارتی اثر

— , Atomic	جوہری حرارت
— capacity	گنجائش حرارت
— content	مقدار حرارت ۔ مافیہ حرارت
— exchanger	حرارت مبادلہ گر
— flush	حرارتی دہاؤ
— , Latent	مخفی حرارت
— , Mechanical Fquivalent	میکانی مساوی حرارت
— , Molecular	سالمی حرارت
— of Activation	عمل کاری کی حرارت
— — adsorption	حرارت حمد
— — aggregation	حرارت اجتماع
— — association	حرارت ایتلاف ۔ ایتلافی حرارت
— — combustion	حرارت احتراق ۔ احتراقی حرارت
— — condensation	حرارت تکثیف۔تکثیفی حرارت
— — cooling	حرارت تبرید ۔ تبریدی حرارت
— — crystallization	حرارت قلماؤ
— — decomposition	تحلیلی حرارت
— — dilution	ہلکاؤ کی حرارت
— — — , Differential	ہلکاؤ کی تفرقی حرارت
— — — , Integral	ہلکاؤ کی تکملی حرارت
— — dissociation	حرارت انفصال
— — formation	حرارت تشکیل
— — fusion	گداخت کی حرارت
— — hydration	آبیدگی کی حرارت

— mean هم آهنگی اوسط

— motion هم آهنگی حرکت ۔ موسیقی حرکت

— oscillation هم آہنگی اہتزاز

— oscillator هم آهنگی اهتزار گر

— progression هم آهنگی سلسلہ سلسلۂ موسیقیہ

— section هم آهنگی تقسیم ۔ هم آهنگی تراش

— series هم آهنگی سلسله

Harmonical هم آهنگانی ۔ موسیقیائی

Harmonics آهنگات ۔ موسیقات

Harmony هم آهنگی

Harvest of Moon خریفی چاند ۔ بدر الحصاد

Haversine (نصف + معکوس + جیب) نصمعجب

Haze دُھند

Head (of water) ارتفاع آب ۔ ما بلندی

— amplifier خاص افزون گر

Head of a Medusa (Female Demon)

سرداو ۔ راس الغول

Head phone سرفون

Headwork مصدر ۔ منبع

Hearing سماعت

— aid آلۂ سماعت

— loss سمعی نقصان

— mechanism سمعی میکانیت

Heat حرارت

Hand	سوئی ۔ دست ۔ ھاتھ
— rail	دستی سلاخ
Handle	دستہ
Hangover	پرتو
Hank	پیچک
Hard	سخت ۔ مشکل
— factors	مشکل اجزائے ضربی
— factorization	مشکل حرواؤ ۔ مشکل جڑوانا
— Tube	سخت نلی
Hard vacuum tube	اعلیٰ خلائی نلی
— x-rays	سخت لا شعاعیں
Hardening	سختانا ۔ سخت کرنا
Hardness	سختی
Hardware	آھنی آلات (سامان)
Harmonic	ھم آھنگ ۔ موسیقی
— analyser	ھم آھنگی تشریح گر
— analysis	ھم آھنگی تشریح
— band	ھم آھنگی بند
— conjugate	ھم آھنگی مزدوج
— curve	ھم آھنگی منحنی منحنہ
— distortion	ھم آھنگی مسخ
— echo	ھم آھنگ گونج
— figures	ھم وضع اشکال
— function	ھم آھنگ تفاعل ۔ موسیقی تفاعل

Habit	عادت - روش - خو
Hack saw	دھات آری - دھاتاری
Hail	اولہ
Hair	بال
— hygrometer	بال رطوبت پیما
— pin winding	تنگ موڑ - موہن موڑ
— spring	بالکمانی
Halation	ہالائیت
Half	نصف - آدھا
— adder	نصف جامع
— angle	نصف زاویہ
— cell	نصف موجہ - نصف خانہ
— life	نصف عمر
— line	نصف خط
— period	نصف دور
— — zone	نصف دور خطہ
— tone process	نصف رودی طریقہ
— value	نصف قدر - نصف قیمت
— wave	نصف موج
— wave plate	نصف روپی تختی
— width	نصف عرض
Halo	ہالہ
Halogen	لونجن - ہالوجن
Hamal (or Arietes)	(برج) حمل (بیرالحمل)

H

H (Music)	دھا (موسیقی)
H (The Gauss)	ح (گاوس)
H (Magnetic Intensity, Magnetic Force, Magnetising Force)	ح
H (The Henry or Henry Law constant)	ھ (ھنری)
H (Hamiltonian function)	ھ (ھَمِلٹنی تفاعُل)
H (Boltzman function)	ب (بولٹزمانی تفاعل)
H (Humidity)	م (مرطوبیت)
H (Hydrogen)	H (ہائیڈروجن)
h (Hour)	س (ساعت)
h (Plank's constant)	ھ
h (Height)	ب (بلندی)
h (Degree of hydrolysis)	ب (برق پاشیدگی کا درجہ)
h (Type of electron with an azimuthal quantum number of 5)	ھ
H-Bar	ح - سلاخ
H-Line	ح - خط
h-parameter	ھ - مقیاس الخروج (خروجی مستقل)
	ھ - محذوفہ

Guide passage	قائد مفد
— pulley	رهنما چرخی
Gulf	خلیج
— stream	خلیجی رو
Gun	بندوق
— , cathode ray	منفی شعاعی بندوق
— cotton	اگن روئی - دھماکو روئی
— metal	بندوقی دھات ـ توپ دھات
— powder	بارود
Gutta percha	گٹا پارچہ
Gyration	گھماو ـ گردش
— , Radius of	گردشی نیم قطر
Gyrator circuit	گردندہ دوریہ
Gyro (Prefix)	گردشی ـ گرد (سابقہ)
Gyrocompass	گردشی قطب نما
Gyromagnetic	گرد مقناطیسی
— effect	گرد مقناطیسی اثر
— ratio	گرد مقناطیسی نسبت
Gyroplane	گرد مستوی ـ گرد سطح
Gyroscope	گردش نما
Gyrostat	چرخ ـ گردشا
Gyrostatic	گردشی
— pendulum	گردشی لٹکن (پنڈولم)

Group, Finite	متناهی گروہ
— frequency	گروهی تعدد
— , Infinite	لامتناهی گروہ
— of waves	مجموعۂ امواج
— , Orthogonal	عمودی گروہ
— , Permutation	ترتیبی گروہ
— , Quotient	خارج قسمت گروہ
— , Rotation	گردشی گروہ
— , Semi -	نیم گروہ، نصف گروہ
— , Symmetric	تشاکلی گروہ
— theory	گروهی نظریہ
— , Unitary	وحدانی گروہ
— velocity	گروهی رفتار ۔ مجموعی رفتار
Grouping	گروہ بندی
Growth	نمو
— curve	نمو منحنی
Grus (The crane)	حمالہ
Guard	محافظ
— band	محافظ پٹی
— bottle	محافظ بوتل
— ring	محافظ حلقہ
— wire	محافظ تار
Guide	رهنما ۔ قائد

Gregorian era	عہد گریگوری
— telescope	دوربین گریگوری
Grid	جال ۔ حالی
Gridiron Pendulum	جالی دار لٹکن (پنڈولم)
Grind	گھسنا
— stone	سان پتھر
Grinder	سان کار
Grinding	سان کاری
Groove	نالی - میراب
— Board	نالی دار تختی
Groves' cell	گرووی خانہ
Ground	(۱) زمین (۲) گھسا ہوا
— glass	گھسا شیشہ ۔ اندھا شیشہ
— noise	زمینی شور
— speed	ارضی رفتار
Group	مجموعہ - گروہ
— , Abelian	آبیلئین گروہ
— , Alternating	بدل گروہ
— , Continuous	مسلسل گروہ
— , Cycle	دوریہ گروہ
— , Dihedral	دو سطحی گروہ
— , Discrete	منفصل (مجرد) گروہ
— , Factor	جزو گروہ

Gravitation	تجاذب
Gravitation Units	تجاذبی اکائیاں
Gravitational	تجاذبی - جاذبہ (ارض) سے متعلق
— astronomy	تجاذبی فلکیات - علم هیئت جاذبہ
Gravitational field	تجاذبی میدان
— potential	تجاذبی قوہ
— radius	تجاذبی نیم قطر
Gravity	جاذبہ
— cell	جاذبہ خانہ
— level	سطح جاذبہ
Graze	چھچھلنا
Grazing	چھچھلاہٹ
Grease	چکنائی
— spot	چکنائی دھبہ
Greasing	اونگنا - چکنانا - چربانا
Great Bear (or Ursa Major)	دب اکبر
— — (or The Plough)	بنات النعش
— — (or The Charles Wain ; The Wagger, or Dipper)	بنات النعش کبری
— Circle	دائرۂ عظیمہ - بڑا دائرہ
Gregorian Calender	تقویم گریگوری

Gramophone	گراموفون
Granite	گریانٹ - سنگ خارا - گار
Granular	داہ دار
Granulated	تکمہ دار
— Zinc	تکمہ دار جست
Granulation	تحبیب
Graph	ترسیم
Graphic	ترسیمی
— diagram	ترسیمی شکل
— formula	ترسیمی کلیہ
— instrument	نگاری آلہ - رسمالہ
— representation	ترسیمی تعبیر
— statics	ترسیمی سکونیات
Graphical	ترسیمی
— differentiation	ترسیمی تفرق
— integration	ترسیمی تکمل
— statics	ترسیمی سکونیات
Graphite	گریفائٹ
Grate	جالی
Graticule	جالی
Grating	جالی
Gravimeter	ثقل پیما
Gravimetric	ثقل پیمائی - ثقل

Gold number	زر عدد
Gold plating	سونا کاری ۔ سنہری ملمع کاری
Golden numbers	زریں اعداد
Gomeisa (or Canis Minoris)	غمیصا ۔ شعریٰ شامیہ
Goniometer	زاویہ پیما
Good conductor	اعلیٰ موصل ۔ عمدہ موصل
Governor	گورنر ۔ ناظم
Grade	ڈھل ۔ ڈھال ۔ درجہ
Gradient	ڈھلان ۔ ڈھال ۔ تدرج
— coupling	تدرجی جفتہ ۔ ادراجی جفتہ
Gradual	تدریجی
— change	تدریجی تبدیلی
Graduated	درجہ دار ۔ مدرج
Graduation	ادراج ۔ درجہ بندی
Grain (of wood)	ریشہ (لکڑی کا)
Grain (Photo)	دانہ (فوٹو)
Gram (Gramme)	گرام
— atom	گرام جوہر
— caloric	گرام حرارہ
— equivalent	گرام معادل
— molecule	گرام سالمہ
— molecular volume	گرام سالمی حجم
— molecular weight	گرام سالمی وزن

Glide	کھسلنا
Glider	کھسل مشین - کھسلیا - گلائڈر
Gliding angle	کھسل زاویہ
Glissette	لغشوبی - لغشونیہ
Globar	اشعاعی سلاخ - چملاخ - چماخ (چمک + سلاخ)
Globe	کرہ
— , Artificial	مصنوعی کرہ
— , — Celestial	مصنوعی سماوی کرہ
— , — Terestial	مصنوعی ارضی کرہ
— Celestial	سماوی (فلکی) کرہ
Globular Clusters	عقود کروی - گول جھمکے
Gloss	چمک
Glossimeter	چمک پیما
Glow	دمک
— , Abnormal	خلاف معمول دمک-غیرمعمولی دمک
— discharge	دمک اخراج - دمک نکاس
— potential	دمک قوہ
— worm	جگنو
Glue	سریش
Gonomon (ic)	نیم قطری - کیلی - (ساعت شمسیہ کا) عقرب
Gobo	آنچل - نقاب
Gold leaf electroscope	طلاورقی برق نما - سون پتی برق نما

Geometry , Radiation	اشعاعی ہندسہ
— , Synthesis	تالیفی ہندسہ - ترکیبی ہندسہ
Geon	جیان
Geophone	زمین گوش - زمین فون ـ زفون
Geophysical prospecting	ارض طبیعی تفتیش
Geophysics	ارض طبیعیات
Georgium sidus	جورجیم سی‌دوس
Geostrophic wind	ارض سمتی ہوا ـ (راست رو ہوا)
Getter	گسخور (گیس خور) ـ یابندہ
Geyser	گرماب ـ گیسر
Ghost	سایہ ـ بھوت
Giauzar (Draconis)	جوزہر (کا مخرب)
Gibbosity (of Mars)	انحداب (مریخ کا) ـ نیم درینی
Gibbous moon	قمر نیم درین
Giedi Prima	قرن الجدی مقدم
— Secunda	قرن الجدی متاخر
Glacier	برف ندی ـ برف رود ـ گلیشر
Glancing Angle	اچٹتا زاویہ
Gland (s)	غدہ - (غدود)
Glare	چمک
Glass	شیشہ
— blowing	شیشہ پھونکنا
— blower	شیشہ پھونکیا - شیش پھُکنا

Geoid	ارض سا
Geomagnetic	ارض مقناطیسی (ارضقناطیسی قناطیسی) ۔
Geomagnetism	ارض مقناطیسیت (ارقناطیسیت)
Geometric	ہندسی
— capacitance	ہندسی برقی گنجائش
— distortion	ہندسی مسخ
— mean	ہندسی اوسط
— progression	ہندسی سلسلہ - سلسلۂ ہندسیہ
Geometrical	ہندسی ۔ ہندسیہ
— image	ہندسی شبیہ
Geometrical method	ہندسی طریقہ
Geometrician	مہندس ۔ ماہر علم ہندسہ
Geometry	ہندسہ
— , Analytic	تحلیلی ہندسہ
— , Descriptive	بیانی ہندسہ - توصیفی ہندسہ
— , Differential	تفرقی ہندسہ
— , Euclidean	اقلیدسی ہندسہ
— factor (Radiation)	ہندسی جزو (اشعاع)
— , Non-Euclidean	غیر اقلیدسی ہندسہ
— , Projective	تظلیلی ہندسہ

Generalised co-ordinates	تعمیمی محددات
— integral	تعمیمی تکملہ
— velocities	تعمیمی رفتاریں
Generate	تکوین کرنا ـ پیدا کرنا
Generating circle	جنک (تکوینی) دائرہ
— function	تکوینی تفاعل
Generation	تکوین
Generation time	تکوینی وقت
Generator	مُکَوِّن - جنک
— , Acoustic	صوتیاتی جنک
— , Alternating Current	بدل رو جنک
— , Direct Current	راست رو جنک
— , Double Current	دو رو جنک
Geocentric	ارض مرکزی
— latitude	ارض مرکزی عرض البلد (عد)
— langitude	ارض مرکزی طول البلد (طد)
— lunar distance	ارض مرکزی بُعد قمری
— parallax	ارض مرکزی اختلاف منظر
— place (or position)	ارض مرکزی مقام
Geochemistry	ارضی کیمیا
Geodesic	جادیاتی - ارض پیماوی
Geodesy	جادیات ـ ارض پیمائیات
Geodetic	جادیاتی ـ ارض پیماوی

Geiger Counter	گائیگر شمارندہ
Gel	سرش
Gelling point	سرش نقطہ
Gelatine	سریش - حلاتین
Gelatinous	سریشی - حلاتینی
Gemini (The Twins)	توابین - درج حورا
Geminids	حوزائیہ
Geminorum	حوزا
— (or Alhena)	یدالحوزا الیسری
— (or Castor)	حوزا - یدالجوزا
— (or Mebsuta)	الذراع المبسوطہ
— (or Mekbuda)	الذراع المقبوضہ
— (or Pollux)	رجل الحوزا
— (or Wesat)	المیسان وحوزا
Gemma (or Coronae Borealis)	نیرالفکہ
General	عام - عمومی
— equation	عام مساوات
— form	عام صورت - صورت عامہ
— function	عام تفاعل
— solution	عام حل - عمومی حل
— term	عمومی رقم
Generalisation	تعمیم
Generalised	عام - تعمیمی

Gaseous state	گیسی حالت
Gate	باب
— angle	بابی زاویہ
— circuit	بابی دورہ
— current	بابی رو
— impedance	بابی مقاومت
— reistance	بابی مزاحمت
— , Time	اوقاتی باب ۔ میقاتی باب
— voltage	بابی وولٹیج
— winding	بابی پیچ ۔ بابی مڈھائی
Gating	باب کاری
Gauge	ناپ ۔ پیمانہ
Guage invariance	پیمانوی استقامت (استقلال)
— , Pressure	داب پیما
Gauss (e m unit)	گاوس (برقناطیسی اکائی)
Gauze	جالی
— tone	جالی سرق
Gear	گراری ۔ گئیر
— box	گراری بکس ۔ گئیردان
— , In	گراری میں ۔ گئیر میں
— , Out of	گراری باہر ۔ گئیر باہر
Geared lathe	گراری دار خراد
Gearing	گراری (گیرنگ)

Galvanoscope	گلون نما
Gamma correction	حه تصحیح
— function	جه تفاعل
— rays	جه شعاعیں
Gamut (Scale)	سپتک
Gap	فصل
— arrester	فصل روک
— extension coefficient	فصل پھیلاؤ شرح
— factor	فصل جزو
— length	فصل طول
Gas	گیس
— carbon	دھوانسا
— discharge lamp	گیس اخراجی لیمپ
— — tube	گیس احراجی نلی
— engine	گیسی انجن
— flame	گیسی شعلہ
— focussing	گیسی ماسکانا
— , Ideal	مثالی گیس
— , Inert	جامد گیس - غیر عامل گیس
— , Kinetic theory of	گیس کا حرکی نظریہ
— regulator	گیس ضابط (ناظم)
— thermometer	گیسی تپش پیما
Gaseous	گیسی
— phenomena	گیسی مظاہر

Gal (unit of acceleration)	گال (اسراع کی اکائی)
Galactic Circles	کہکشانی دائرے
Galaxy	کہکشاں
Gale	آندھی
Gallery	گیلری
Gallon	گیلن
Galvanic cell	گلوانی خانے
Galvanised iron	جستی لوہا
Galvanism	گلوانیت
Galvanoluminescence	گلون نورانیت
Galvanometer	گلون پیما - رو پیما
— , Astatic	اچل رو پیما
— , Ballistic	اندفاعی رو پیما
— constant	رو پیما مستقل
— equation	رو پیما مساوات
— , Moving coil	متحرک لچھا رو پیما
— , Moving magnet	متحرک مقناطیس رو پیما
— , Oscillograph	اہتزاز نگار رو پیما
— shunt	رو پیما عاطف
— , Tangent	مماسی رو پیما
— throw	رو پیما کی جست
— , Vibration	ارتعاشی رو پیما
Galvanometry	رو پیمائی

G

G (Music)	پا (موسیقی)
G (Gravitational constant)	ح (تحاذبی مستقل)
G (Vibration part of the energy of molecule)	گ
G, g (Electrical Conductance)	ص - صد (برقی ایصالیت)
G (Spectral term symbol of L-Value of 4)	گ (طیفی رقم کی علامت ل قیمت ۴ کے لئے)
G string	پا تار
g (acceleration due to gravity)	جا (اسراع جاذبہ ارض)
g (gram)	گم (گرام)
g (Electron with azimuthal quantum No. of 4)	گ
γ (Gamma)	جہ
Gain	نفع
— , Directive	سمتی نفع
— , Insertion	ادخال نفع

Fundamental rule	بنیادی قاعدہ
Funicular	ریسمانی ۔ ڈوریوں کا
Funnel	قیف
Furnace	بھٹّی
Fuse	فیوز ۔ گدازہ ۔ گدازندہ
— wire	فیوز تار
Fused	گداختہ
Fusibility	گداز پذیری
Fusion	گداخت

— , Implicit	ضمنی تماعل
— , Integral	تکمیلی تفاعل
— , Inverse	معکوس تماعل
— , Linear	خطی تماعل
— , Logarithmic	لوکارتمی تفاعل
— , Multi-periodic	کثیر دوری تماعل
— , Multivalued	کثیر قیمتی تفاعل
— , Non-homogeneous	غیر متجانس تماعل
— , Odd	طاق تفاعل
— , Parabolic	مکافی تفاعل
— , Periodic	دوری تفاعل
— , Single-periodic	یک دوری تفاعل
— , Single-valued	یک قمتی تماعل
— , Square-root	جرری تماعل
— , Transcendental	علوی تفاعل
— , Trigonometric	مثلثی تفاعل
— , Univalent	یک قیمتی تفاعل
Fundamental	بنیادی ۔ اساسی
— equation	بیادی مساوات
— formulae	بیادی ضابطے
— instruments	اساسی آلات
— note	بنیادی سُر
— principle	بیادی اصول

Frustum	مقطوع (مخروط ناقص)
Fuel	ایندھن
Fugitive	گریزاں
Fulcrum	نصاب
Fulgurator	برق بردار
Full	پرُ - کامل
Fullmoon	بدر - ماہ کامل
Fulminating	بھڑک - بھڑکا نیوالا
Fume	(۱) تدخین (۲) دخان
Function	تفاعل
— , Algebraic	الجبرائی تفاعل
— , Continuous	مسلسل تفاعل
— , Cylindrical	استوانی تفاعل
— , Differential	تفرقی تفاعل
— , Discontinuous	غیرمسلسل تفاعل
— , Double-periodic	دو دوری تفاعل
— , Elliptic	ناقصی تفاعل
— , Even	جُفت تفاعل
— , Exp'icit	تصریحی تفاعل
— , Exponential	قوت نمائی تفاعل
— , Harmonic	موسیقی تفاعل
— , Homogeneous	متجانس تفاعل
— , Hyperbolic	زائدی تفاعل

Freezing point	نقطۂ انجماد
— state	انجمادی حالت
— temperature	انجمادی درجۂ حرارت
Frequency	(۱) تعدد (۲) ارتعاش
— , Audio	سماعی تعدد
— , Carrier	حامل تعدد
— , High	اعلیٰ تعدد
— , Intermediate	درمیانی تعدد
— , Low	ادنیٰ تعدد
— , Radio	ریڈیائی تعدد
Friction	رگڑ ۔ فرک
— , Coefficeint of	فرکی سر ۔ فرکی شرح
— , Force of	فرکی قوت
Frictional	فرکی
— electrical machine	فرکی برقی مشین
— electricity	فرکی برق
— force	فرکی قوت
— resistance	فرکی مزاحمت
Frigid	سرد
Frigidaire	سرد آلہ ۔ ثلاّجہ
Fringe	جھالر ۔ حاشیہ ۔ کنارہ
Front	(۱) پیش (۲) محاذ
— view	پیش منظر

Fountain	سر چشمہ ۔ فوّارہ ۔ منبع
Fountain effect	فواری اثر
Fourfactor formula	چار جزو ضربی کلیہ
Fraction	کسر
Fractional	کسری
Fractional distortion	کسری بگاڑ
— saturation	کسری سیری
Frame	چوکھٹا ۔ ڈھانچہ
Frame of references	حوالے کے حدود
Framework	ڈھانچہ
Free	آزاد
— force	آزاد قوت
— movement	آزاد حرکت
— pulley	آزاد چرخی
— state	آزاد حالت
— vibration	آزاد ارتعاش
— wheel	آزاد پہیہ
Freedom	آزادی
— , Degree of	درجۂ آزادی
Freeze	جمنا ۔ جمانا ۔ انجماد
Freezing	انجمادی
— machine	جماؤ مشین
— mixture	جماؤ آمیزہ ۔ انجمادی آمیزہ

Force ratio	قوائی نسبت
— , Repulsive	قوت دافعہ
— , Restoring	بحالی قوت
— , Tangential	تماسی قوت
—(s), Triangle of	قوتوں کی مثلث
— , Unit of	قوت کی اکائی
Forced	جبری
— oscillation	جبری اہتزاز
— vibration	جبری ارتعاش
Forceps	چمٹی
Forcing	جبر
Fork	دو شاخہ ۔ کانٹا
Form	شکل ۔ صورت
— , Bilinear	دو خطی۔ دو درجی صورت
— , Liuear	خطی صورت
— , Quardratic	دو درجی صورت
Formation	بناؤ - تشکیل
Formax (the Furnace); Fornak (Chemist's)	محمر ۔ فورنکس
Formula	ضابطہ
Formulae	ضابطے
Fortnight	دو ہفتہ ۔ نیم ماہ
Forward	پیش ۔ آگے

Foot poundal	فٹ پونڈل
Forbidden	ممنوعہ
— band	ممنوعہ پٹی (بند)
— transition	ممنوعہ عبور
Force	قوت
— of attraction	قوتِ کشش
— of gravitation	قوتِ تجاذب
— , Acting	عاملہ قوت
— , Central	مرکزی قوت
— , Centrifugal	مرکز گریز قوت
— , Centripetal	مرکز مائل قوت
— (s) , Coplanar	ہم مستوی قوتیں
— , Disturbing	مخیل قوت ۔ خلل انداز قوت
— , Effective	مؤثر قوت
— , Frictional	فرکی قوت
— , Functional	تفاعلی قوت
— (s) , Parallel	متوازی قوتیں
— , Perturbing	قوت مغیرہ
— (s) , Parallelogram of	قوتوں کا متوازی الاضلاع
— (s) , Polygon of	قوتوں کا کثیرالاضلاع
— , Projectile	پیش اندازی قوت
— pump	داب پمپ

Focal length	ماسکی طول
— line	ماسکی خط
— plane	ماسکی مستوی
— point	ماسکی نقطہ
— power	ماسکی طاقت
Foci	ماسکے
Focoid	ماسکہ سا
Focometer	ماسکہ پیما
Focus	ماسکہ
Focussing	ماسکانا
— Board	ماسکہ تختہ
Foil	پترا ۔ ورق
Fold	تہہ ۔ خم ۔ تہہ کرنا
Folded	تہہ دار ۔ تہہ کردہ ۔ خمیدہ
Folium	پتہ
Follow	تقلید ۔ پیروی
Follower	مقتدی ۔ مقلد ۔ پیرو ۔ تابع
Fom	فُم
Fomalhaut	فُم الحوت
Foot	پایہ ۔ جَڑ
Foot (Feet)	فُٹ (فیٹ)
— candle	فُٹ بتی
— pound	فُٹ پاؤنڈ

Fluctuation	آتار چڑھاؤ
Fluency	سیلان ۔ سیلانیت
Fluent	سیال ۔ بہنے والا
Fluid	سیال
— friction	سیالی رگڑ
— measure	سیال کا ناپ
— ounce	سیالی اونس
Fluidity	سیالیت
Flush	ہموار ۔ برابر ۔ ہم سطح
Flutter	پھڑ پھڑانا
Flux	نفاذ ۔ بہاؤ
— meter	نفاذ پیما
Fluxion	بہاؤ ۔ روانی
Fly wheel	آڑپہیا ۔ آڑی پہیہ
Foam	کف ۔ جھاگ
— , Sea	سمندری جھاگ
Foca (or Coronae Borealis)	نیرالفکہ
Focal	ماسکی
— circle	ماسکی دائرہ
— collimator	ماسکی توازی گر
— conic	ماسکی مخروطی
— distance	ماسکی فاصلہ
— isolation	ماسکی علحدگی

Flexure	خمیدگی
Flicker (Photometer)	ٹم ٹمانا ـ (ضیا پیما)
Flight	پرواز ـ اڑان
Flint	چقماق
— glass	چقماق شیشہ ـ فلنٹ شیشہ
Flip-Flop circuit	دو قائمی دورہ (برقیات)
Float	پیراک ـ تیراک
Flood	سیلاب ـ سیل
Flood-tide	مد
Flop-over circuit	دو قائمی دورہ (عوامی محاورہ)
Flora	فلورا (ایک سیارچہ کا نام)
Floating	تیرتا
Floating Battery	تیرتا مورچہ
— body	تیرتا جسم
— dock	تیرتی گودی
Floatation	تیراؤ
Flow	دھاؤ
— of electricity	برق کا دھاؤ
Flourescence	فلوریت
Flourometer	فلور پیما
Flourometry	فلور پیمائی
Flouroscope	فلور نما
Flue (pipe)	دخان کش

Fixed centre	ثابت مرکز
— jaw	ثابت جبڑا
— point	ثابت نقطہ
— pulley	ثابت چرخی
— star	ثابت ستارہ ۔ کوکب ثابتہ
Flag	علم ۔ پرچم ۔ جھنڈا
— staff	جھنڈا کھمبا ۔ پرچمی کھمبا ۔ پرچم چوب
Flame	شعلہ
Flaming discharge	شعلہ دار اخراج
Flange	کور
Flare	شعلہ
Flash	بھڑک
— light	بھڑک روشنی
— point	بھڑک نقطہ
— spectrum	بھڑک طیف
Flashometer	بھڑک پیما
Flask	صراحی
Flat	چپٹا ۔ بسیط ۔ مُسَطَّح
Flexiblity	ملائمت ۔ نرمی ۔ خم پذیری
Flexible	نرم ۔ خم پذیر ۔ لچکیلا
— cord	لچکدار ڈوری ۔ تانت
— spring	لچکدار کمانی
— surface	ملائم سطح
Flexural rigidity	خمیدگی کی استواری ۔ خم استواری

First point of Aries	نقطۂ اول حمل
— — — Cancer	نقطۂ اول سرطان
— — — Capricorn	نقطۂ اول جدی
— — — Libra	نقطۂ اول میزان
— — — Quarter	نقطۂ ربع اول
— quadrant	اول ربع دائرہ
— quarter	ربع اول
Fishes (The Pisces)	حوت ۔ سمکتین
Fishtail	ماہی دُم
— flame	ماہی دُم شعلہ
Fissile	قابل انشقاق
Fission	انشقاق ۔ پارگی
— fragments	انشقاقی اجزا ۔ پارگی ریزے
Fissionable	قابل پارگی
Fissure	درز
Fittings	لوازم ۔ سازو سامان ۔ متعلقات
Fit-loosely	ڈھیلا بیٹھنا
— tightly	چست بیٹھنا
Fixation	تثبیت
Fixative	مُثَبِّت
Fixing solution	ثبتی محلول
Fixed	قائم ۔ ثابت
— bearing	ثابت چول
— bar	ثابت سلاخ

Film gate	فلم کھڑکی ۔ فلم گذار
Filter	فلٹر ۔ تقطیر
— , Choke input	حبسیہ درآمدی تقطیر
— , Mechanical	میکانی تقطیر
— paper	تقطیری کاغذ
Filteration	عمل تقطیر
Filterate	مُقطّر
Filtered	مُقطّر ۔ تقطیر شدہ
Fine	باریک ۔ نازک
Finite	متناهی ۔ محدود
— area	محدود رقبہ
— series	متناهی سلسلہ
Fire	آگ ۔ آتش
— alarm	اگن گجر
— ball	کرۂ نار ۔ آتشی گولہ
— clay	آتشی مٹی ۔ اگن مٹی
— damp	اگن گیس
— engine	اگن انجن آتش فرو انجن
— proof	آگن روک
— screen	اگن پردہ
Firmament	آسمان ۔ سمائے فلک ۔ سپہر
First Law of Motion	حرکت کا پہلا قانون
— order theory	یک رتبی نظریہ

Fermion	فرمیان (ایک ذرہ)
Ferromagnetic	لوہ مقناطیسی
Ferromagnetism	لوہ مقناطیسیت - لوقناطیسیت
Fertile	زرخیز
Fibre	ریشہ
Fictitious year	سن یا سال حملی
Fiddle	بیلا
Fidelity	صداقت
— , High (Hi-Fi)	اعلیٰ صداقت
Field	میدان
— Book	پیمائشی بیاض
Field of view	میدان نظر
Fifth (note)	پنجم
— order Theory	پنج رتبی نظریہ
Figurate	اشکالی - مُشَکّلہ
— number	اشکالی اعداد - اعداد مُشَکّلہ
Figure	شکل - عدد
— of merit	عدد قابلیت
Filament	ریشہ - سوت
Filar (of thread)	خیطی
File	ریتی
Filled	پُر - بھرا ہوا
Film (membrane)	فلم - جھلی - غشاء

Fall of temperature	تپش کا تنزل
Falling body	گرتا جسم
Falling stars	گرتے تارے - نجوم ساقطہ
False	جھوٹا - کاذب
False zero	کاذب صفر
— position	کاذب محل - کاذب مقام
Family	خاندان - نظام
Far point	دور نقطہ
Farad	فیرڈ
Fathom	فیدم - پرس
Fathometer	فیدم پیما - پرس پیما
Fatigue	تکان
Fault	نقص - خلل - عیب
Fault finding	نقص گیری - عیب جوئی
Fault finder	نقص گیر - عیب جو
Faulty	ناقص
Feeder	کھلاؤ
Feed	کھلانا - کھلاؤ
— Back	پس کھلاؤ
— (pump)	کھلاؤ پمپ
Feeding point	کھلائی نقطہ
Fehlordinung	میلان بد نظمی
Felt	نمدہ

F (Narrow fine spectral structure)	ب (تنگ باریک طیفی ساخت)
F (Relative humidity)	ط (اضافی مرطوبیت)
F (Type of electron)	ف (برقیہ کی ایک قسم)
Face	رخ
Face-centred structure	رخ مرکزی ڈھانچہ
Facet	رخچہ
Factor	جزو - جزو ضربی
Factor theorem	جزو ضربی مسئلہ
Factorial	ضرب جزوی
Faculae (of the Sun)	مشعل
Fade	ماند
Fade, to	ماند پڑنا پھیکا پڑنا
Faded	ماندہ - پھیکا
Fade in	سُست ظہور
Fade out	سُست غیاب
Fader	ماند گر - ماند کار
Fadeometer	ماند پیما
Fading	ماند پن
Fehrenheit scale	فارن ہیٹ پیمانہ
Falcated	ہلالی - خمیدہ
Fall	(۱) گرنا - گراؤ - تنزل (۲) ابشار

F

F (Filament)	ر (ریشہ ۔ سوت)
F (Force)	ق (قوت)
F (Frad)	ف (فیرڈ)
F (Free Energy)	آ (آزاد توانائی)
F (Force, Magnetomotive) M M F	ق (قوت محرکہ مقناطیس) ق م م
F (Freedom, Degree of)	م (درجۂ آزادی)
F (Function, Distribution)	ف (تقسیمی تفاعل)
F (Hyperfine quantum Number, Sum of J and I)	ب (بالا باریک کوانٹم عدد ژ اور آ کا مجموعہ)
F (Luminous flux)	ن (تنویری نفاذ)
F (Music)	ما (موسیقی)
F (Rotation part of the energy of a molecule)	ف (سالمے کی توانائی کا گردشی جزو)
F (Spectrum term symbol for L-Value 3)	ف (طیفی رقم کی علامت ل قدر ۳ کے لئے)
F (Acceleration)	س (اسراع)
F (Focal length)	م (ماسکی طول)
F (Free frequency)	ت (آزاد تعدد)

— meter	نابودگی پیما
— coefficient	نابودگی کی شرح
— of light	نوری نابودگی
Extra current	زائد رو
Extract	ست
Extraction	ست نکالنا ۔ ست کاری
Extraordinary	غیر معمولی
— ray	غیر معمولی شعاع
Extrapolation	استخراج ۔ درائی اندراج ۔ در اندراج
Extrapolate	استخراج کرنا
Extremal (calculus)	نہائی حصاء
Extreme	انتہائی
Extremes	طرفین ۔ نہایات
Extreme & mean ratio	انتہائی اور وسطی نسبت
Extremities	سرے
Extrinsic	بیرونی
Eye	عین(آنکھ) ۔ چشم
Eye hole	منظرہ
Eye lens	عدسۂ چشم
Eye glass	آئینہ چشم
Eye ring	چشمی حلقہ
Eye piece	چشمہ
Eye-piece micrometer	چشمی خورد پیما

Explore	تلاش کرنا ۔ تفتیش کرنا
Explorer	تلاش کار ۔ تلاش گر ۔ متلاشی
Exploration	تلاش کاری ۔ تلاش گری ۔ تفتیش
Explosion	دھماکہ
Explosive	دھماکو
Exponent	قوت نما
Exponential (function)	قوت نمائی (تفاعل)
— integral	تکملہ قوت نما ۔ قوت نمائی تکملہ
— series	سلسلۂ قوت نما
— theorem	مسئلۂ قوت نما
Expose	کشف ۔ تعریہ ۔ عریاں کرنا ۔ آشکار کرنا
Exposure	آشکار ۔ تعریہ
Exposuremeter	تعریہ پیما
Expression	عبارت، جملہ ۔ اظہار
Exsecant	قطر زا
Extension	امتداد ۔ توسیع ۔ بڑھاؤ
Extensible	امتداد پذیر
Extensibility	امتداد پذیری توسیع پذیری
Extensometer	امتداد پیما
External	بیرونی ۔ خارجی
External force	بیرونی قوت ۔ خارجی قوت
Exterior Planet	بیرونی سیارہ
Extinction	نابودگی

Exhaust (of gases in engines)	احراج
Exhaustion	خلا کاری ۔ احراج
Exhaust (pump)	خلا کار (پمپ)
Exit (tube)	نکاس (نلی)
— (pupil)	نکاس (پتلی)
Ex-meridian	ورائے نصف النہار
Exosmose	برسرایت
Exosphere	بالائی کرہ
Exothermic	حرارت زا
Expand	پھیلانا ۔ کشادنا
Expansion	صورت ۔ تفصیل یا تعصیل ۔ پھیلاؤ ۔ کشاد
Expansibility	کشادگی ۔ پھیلاؤ
Expansive Power	طاقت کشاد ۔ پھیلاؤ طاقت
Experiment	تحربہ
Experimental demonstration	عملی تشریح
	عملی مظاہرہ
— determination	عملی تعین
— method	عملی طریقہ
— observation	عملی مشاہدہ
— science	تجرباتی سائنس
— verification	عملی تصدیق
Experimenter	مشاہد
Explanation	توجیہ ۔ وضاحت
Explicit	تصریحی

Evacuated	خلا دار ۔ خالی
Evaporation	تبخیر
Evaporator	تبخیر گر
Even	جفت
Evolute	پر پیچہ
Evolution	پر پیچ
Evolution	ارتقاء
Evolution, Tidal	ارتقائے مدی
Exact	ٹھیک ۔ قطعی
— Differential Equation	قطعی یا حاضر تفرق مساوات
— equation	قطعی مساوات
— science	علم قطعیہ
Exactness	قطعیت
Excentric	خارج المرکز
Enchange	مبادلہ ۔ تبادلہ
— energy	تبادلہ توانائی
— integral	تبادلہ تکملہ
— relation	تبادلہ تعلق
Excitable	اکسن ہار
Excitability	اکسن ہاری
Excitation	اکساؤ
Excite	اکسانا
Excited	اکسایا

— , Probable .	ممکنہ خطا ۔ احتمالی خطا
Escalator	متحرک زینہ
Escapement (in a time-piece)	کتا
Escribe (a figure)	جانبی (شکل) کھینچنا
Essential singularity	اصلی اختصاص ۔ خاص نادریت (ندرت)
Essentially convergent	لازمی متقارب
Establishment (of a Port)	قانون المرفا
Etalon	تداخل پیما
Etanin (or Daconis)	(راس) التنین
Etching	کندہ کاری
— agent	کندہ کار
Fternal	ازلی ۔ ابدی ۔ جاودانی ۔ دائمی
Ether (substance)	ایتھر
— (medium)	ایتر ۔ ایثر ۔ ملاثیر ایثری
Euclid's square	مربع اقلیدس
Euclidean space	اقلیدسی خلاء
Eudiometer	گیس پیما
Europa	یوروپا ۔ مشتری کا دوسرا چاند
Eutectic	سگل
Eutectoid	سگل سا
Evacuation	خلا کاری
Evacuator	خلا کار

— length of a magnet	مقناطیس کا طول مساوی
— water	آب مساوی
— weight	معادل وزن
Equulens pictoris	اثاق المصورین
Equulens (the little horse)	فرس اصغر
Era	عہد ۔ دور
Lrect	راست ۔ سیدھا ۔ کھڑا
Erecting eye	راست گر چشمہ ۔ قائم کن چشمہ
Erecting prism	راست گر منشور
Erg	ارگ
Ergometer	ارگ پیما
Ergon	ارگان
Eridani (Cursa)	کرسئی جوزا ۔ عرش جوزا
— zaurac	زورق جوزا
Eriometer	قطیرہ پیما ۔ قطرک پیما
Eridanus (or Fluvius)	النہر
Eros	ایراس
Errai or Cephii	الراعی
Error	خطا ۔ غلطی
— of collimation	خطائے توازی گر
— , Ecentric	بے مرکزی خطا
— equation	خطا مساوات

Equimultiple	اضعاف متساویہ
Equinoctial	معدل النہار ۔ اعتدالی
— colour	اعتدالی رنگ۔ دائرۂ مارہبہ اعتدالین
— line	اعتدالی خط ۔ دائرۂ اعتدالیہ
— point	اعتدالی نقطے
Equinox	اعتدال
Equinoxes	اعتدالین
Equinoxes, Autumnal	اعتدالین خریفی
— , Vernal	اعتدالین ربیعی
Equinoxes, Precession of	مبادرہ (یا استقبال) اعتدالین
Equinous	فرس اصغر
Equipartition (of energy)	ہم تقسیم (توانائی کی)
Equipoise	توازن کرنا ۔ پاسنگ
Equipollent	ہم قدر
Equipotential	ہم قوہ
— lines	ہم قوہ خطوط
Equisignal	ہم اشارہ
Equitempered scale	ہم‌میزان پیمانہ
Equivalence	معادلت ۔ تعادل
Equivalent	معادل ۔ مساوی
— circuit	مساوی دورہ (دوریہ)
— conductivity	مساوی موصلیت
— function	معادل تفاعل

— sundial	استوائی دھوپ گھڑی
— telescope	استوائی دوربین
— , terrestrial	ارضی خطی استوا
Equatorial	استوائی
— acceleration (of Sun's rotation)	استوائی اسراع
— horizontal parallax	استوائی افقی اختلاف
— region	استوائی خطہ ۔ استوائی اقلیم
— solar parallax	استوائی شمسی اختلاف
Equi	متساوی ۔ مساوی
Equiangular triangle	متساوی الزاویہ مثلث
Equidistant	مساوی الفصل ۔ ہم فصل
Equilateral hyperbola	متساوی الاضلاع زائد ۔ قائم زائد
Equilateral triangle	مثلث متساوی الاضلاع
Equilibrant	توازن گر ۔ متواز
Equilibrate	متوازن کرنا ۔ توازن کرنا
Equilibrated	متوازن ۔ توازن یافتہ
Equilibrating force	متوازی قوت ۔ متعادل قوت
Equilibrium	توازن ۔ تعادل
— constant	توازن مستقل
— temperature	متوازی تپش۔ متعادل تپش
Equimomental	ہم معیاری

Epicycle	فلک تدویر ۔ فلک جزی
Epicycloid	برتدویر
Epidiascope	تصویر انداز
Epoch	قرن ۔ آن
— , Angle of	آغازی زاویہ ۔ آغار کا زاویہ
Epitaxy	بین افرائش
Epitrochoid	دراستداری خط
Equal	مساوی
Equality	مساوات
Equalizer	مساوی گر
Equation	مساوات
Equation, Annual	سالانہ مساوات
— of Centre	مرکز کی مساوات۔ مرکزی مساوات
Equation of condition	حالت کی مساوات
— of equinoxes	اعتدالین کی مساوات
— of evection	تعدیل اعتساف
— of heavenly body	جرم فلکی کی مساوات
— of light	تعدیل نور ۔ مساوات نور
— of squared differences	مربع فروق کی مساوات
— of time	وقت کی مساوات
Equator	استوا
— , Celestial or equinoctial	سماوی خط استوا

Energy	توانائی
Energy gained	حاصل شدہ توانائی
Engine	انجن
Enhanced	افزودہ
Enhanced spectrum	افزودہ طیف
Enib (Enif)	انف (بمعنی بینی) کا مخرب
Enlargement	کلاں گری
Englarger	کلاں گر
Entity	ہستی
Entrance pupil	آمد پتلی
·Entropy	ناکارگی
— constant	ناکارگی مستقل
— of disorder	بے ترتیبی کی ناکارگی
— of fusion	گداختی ناکارگی
— of ions	روانی ناکارگی
— of vapourization	تبخیری ناکارگی
— of vector	سمتیہ ناکارگی
Enumerable	شمار پذیر
Enunciation	تعریف ۔ دعوی ۔ تصریح
Envelope	لفاف
Ephemeris	تقویم
— nautical	تقویم بحری ۔ تقویم فلکی
Epicentre	برمرکز

Emergence	نمود ۔ ظہور ۔ اخراج
— , Grazing	تماسی اخراج
Emergent	نمودار ۔ ظہوری ۔ خارج
— ray	ظہوری شعاع ۔ خارج شعاع
Emersion	ظہور ۔ خروج
Emission	خروج
Emissivity	خروجیت
Emmissive power	خروجی طاقت
Emittance	اخراج ۔ خروج
Emitter	خارج کنندہ
Emitron	ایمٹرون
Emulsification	شیرانا
Emulsion	شیرہ
Emulsoid	شیرہ سا
Empirical	امتحانی ۔ تجربی
Enceladus	انقلا دوس
End	اختتام ۔ سرا
End correction	سرے کی تصحیح ۔ سراتصحیح
End-on	سیدھی وضع ۔ سیدھ
End-on position	سیدھی وضع
Endosmos	درسرایتی
Endosmosis	درسرائیت
Endothermic	حرارت خوار

Elementary	ابتدائی
— algebra	ابتدائی الجبرا
Elevation	بلندی ـ ارتفاع ـ چڑھاؤ
Elevator	بلند گر
Elevator coil	بلند گر لچھہ
Eliminant	مسقط ـ محذوف
Eliminate	ساقط کرنا ـ حذف کرنا
Elimination	اسقاط ـ حذف
Ellipse	قطع ناقص ـ ناقص
Ellipsoid	ناقص نما
Ellipsoidal	ناقص نما
Ellipsoid body	ناقص نما جسم
Elliptic	ناقصی
Elliptic comet	ناقصی دم دار تارا
— function	ناقصی تفاعل ـ ناقص فعل
— integral	ناقصی تکملہ
— motion	حرکت ناقصہ ـ ناقص حرکت
— plate	ناقصی تختی
Elliptical	ناقصی
Ellipticity (or oblateness of planet)	ناقصیت
Elongation	ابتعاد - اضافہ طول
Emanation	مخروج
Emanant (s)	مستخرجہ ـ مستخرجات

Electropolishing	برق پالش کاری
Electropositive	برق مثبت
Electropositiveness	برق مثبتیت
Electropotential	برق قوه
Electroscope	برق نما
— , Gold-leaf	سون پتی برق نما
— , Pith-ball	گودا گولی برق نما
Electroscopic	برق نمائی
Electrostatic	برق سکونی
Electrostatical	برق سکونی
Electrostatics	برق سکونیات
Electrostriction	برق ٹانکا
Electrovalence	برق گرفت
Electroviscosity	برق لزوجت
Electroviscous effect	برق لزجی اثر
Element (s)	عنصر (عناصر) ۔ جزو
Element of a determinant	مقطعه کا ترکیبی جزو
Element of a binary star orbit	ثنائی ستاروں کے مبادی مدار
Element of a comet's orbit	دم دار تارے کے مبادی مدار
— — — planet's orbit	سیارے کے مبادی مدار
— — variable star	متغیر سیارے کے مبادی مدار

Electrometallurgy	برقی دھات کاری ۔ دھاتوں کا برقی تصفیہ
Electrometer	برق پیما
Electromotive	محرکہ برق
Electromotive force	قوت محرکہ برق (ق م ب)
Electromotor	برق موٹر
Electron	برقیہ (الکٹرون)
Electron coupling	برقیہ جفتہ ۔ الکٹرون جفتہ
— diffraction	برقیہ انکسار ۔ الکٹرون انکسار
— discharge	برقیہ اخراج ۔ الکٹرون اخراج
— theory	برقیہ کا نظریہ ۔ الکٹرون نظریہ
Electronegative	برق منفی
Electronegativeness	برق منفیت
Electronic	برقیاتی ۔ برقیری
— oscillation	برقیاتی اہتزار
— rectifier	برقیاتی راست گر
— state	برقیاتی حالت
Electronics	برقیات ۔
Electroparting	برق علیحدگی
Electrophone	برق فون
Electrophorus	برق بردار
Electrophoresis	برق برداری
Electroplating	برق ملمع کاری

Electrolytic		برق پاشیدگانہ
—	condenser	برق پاشیدگانہ مکثفہ
—	conduction	برق پاشیدگانہ ایصال
—	depolarization	برق پاشیدگانہ تقطیب ربائی
—	dissociation	برق پاشیدگانہ علیحدگی
—	polarization	برق پاشیدگانہ تقطیب
—	rectifier	برق پاشیدگانہ راست گر
Electromagnet		برقناطیس - برقی مقناطیس
Electromagnetic		برقناطیسی - برقی مقناطیسی
Electromagnetic constant		برقناطیسی مستقل
—	control	برقناطیسی نظم - برقناطیسی ضبط
—	damping	برقناطیسی تمصیر
—	field	برقناطیسی میدان
—	generator	برقناطیسی جنک - برقناطیسی مکون
—	induction	برقناطیسی امالہ
—	inertia	برقناطیسی جمود
—	radian	برقناطیسی نیم قطری
—	reaction	برقناطیسی تعامل
—	repulsion	برقناطیسی تنافر
—	wave	برقناطیسی موج
Electromagnetisation		برقی مقناؤ
Electromagnetism		برقناطیسیت

— resonance	برقی گمک
Electrician	بجلی مستری
Electricity	برق
Electrics	برقی اشیاء
Electrification	برقاؤ ۔ برقانا
Electrified	برقایا
— body	برقایا جسم
Electrify	برقانا
Electro-cardiograph	برقی قلب نگار
Electrochemical	برقی کیمیائی
— — equivalent	برق کیمیائی معادل
Electrochemistry	برقی کیمیا
Electrocution	برق ہلاکت
Electrode	برقیرہ
Electrodynamic instrument	برق حرکی آلہ
Electrodynamometer	برقی قوت پیما
Electroendosmosis	برقی در سرایت
Electrograph	برق نگار
Electrokinetic potential	برق حرکی قوہ
Electrology	برقیات
Electrolyse	برق پاشیدگی کرنا
Electrolysis	برق پاشیدگی
Electrolyte	برق پاشیدہ

— angle		برقی زاویہ
— arc welding		قوس برقی جوڑ
— component		برقی جرو ترکیبی
— current		برقی رو
— discharge		برقی اخراج
— displacement		برقی ہٹاؤ
— field		برقی میدان
— — strength		برقی میدانی طاقت
— fuse		برقی گدازہ
— flux		برقی نماد ۔ برق بہاؤ
— generator		برق جنک ۔ برقی مکون
— oscillation		برقی اہتزاز
— traction		برق کھنچوڑ
— wave filter		برق موجی چھلنا
— — telegraphy		برق موجی ٹیلگرافی ۔ برق موجی تارنگاری
Electrical		برقی
— bias		برقی تعصب
— chain		برقی زنجیر
— effect		برقی اثر
— energy		برقی توانائی
— recording		برقی نگارش ۔ برقی اندراج
— resistance		برقی مزاحمت

Efflux	بر بہاؤ
Effort	کوشش - زور
Effusion	تراوش
Egress	ظہور - خروج
Einstein shift	آئین سٹائنی ہٹاؤ
Ejection	اخراج - براندازی
Ejector	برانداز - خارج کرنے والا
Elastic	لچکدار
Elastica	لچکیہ - لرنیہ
Elastic band	لچکدار بند
— fatigue	لچک کی تکان
— limit	لچک کی حد - حد لچک
— strength	لچک کی قوت
— string	لچکدار رسی
Elasticity	لچک
— of bulk	حجمی لچک
— — compression	داب کی لچک
— — elongation	کھچاؤ کی لچک
— — flexure	خمیدگی کی لچک
Elastometer	لچک پیما
Elbowed equatorial	مرفقی استوائی
Electra	برقہ
Electric	برقی

Eddies	گرداب ـ بھور
Eddy	گرداب
— current	گردابی رو
— — speed indicator	گردابی رو کا رفتار نما
— wind	گردابی ھوا
Edge	کنارا
Edge - tone	سرتی کنارا
Edifice	عمارت ـ ڈھانچہ
Eduction (Exhaust)	اخراج
Effect	اثر
Effective	مؤثر
— depth	مؤثر گہرائی
— range	مؤثر رد
— resistance	مؤثر مزاحمت
— surface	مؤثر سطح
— temperature	مؤثر تپش
— value	موثر قیمت - موثر قدر
— wave length	مؤثر طول موج
Effervescence	سرد آبال
Efficiency	کارکردگی ـ استعداد
Efficient	کارگر ـ مستعد
Efflorescence	شگفتگی ـ کھلاؤ

— of orbit	مدار کا خروج المرکز
Ecentre	جانبی مرکز
Echelon	زینہ دار
— grating	زینہ دار جالی
Echelon wave	نرد بانی موجیں
Echo	گونج
Echo meter	گونج پیما
— sounder	گونج مصوات
— suppressor	گونج فرو کار
	گونج فرو گر
Ecircle	جانبی دائرہ
Eclipse	کسوف ، خسوف ۔ گرہن
— , Annular	کسوف حلقی
— , Binary	دوگانہ گرہن
— , Central	مرکزی کسوف
— , Lunar	خسوف ۔ چاند گرہن
— , Partial	جزوی یا ناقص گہن
— , Penumbral	خسوف شمسی
— , Solar	کسوف ۔ سورج گہن
— , Total	کلی یا کامل کسوف
Eclipsed	مکسوف ، مخسوف ۔ گہنایا ہوا
Ecliptic	طریق شمس ۔ طریق الشمس
Economiser	کفایت گر

— pressure	ارضی دباؤ
— resistance	ارضی مزاحمت
— shine	زمیں تاب - ارض تاب
— thermometer	ارضی تپش پیما
— way	ارضی راہ
— wire	ارض تار
Earthed circuit	ارضایا دوریہ
Earthing	ارضاو
— reactor	ارضی تعامل گر
— resistor	ارضی مزاحم
Eave	اولتی
Ebb and flow	جزرومد - حوار بھاٹا
Ebb tide	جزر
Ebonite	ایبونائٹ
Ebullition	اُبال - جوش
Ebony	آبنوس
Ebullioscope	ابال نما
Ebulliscopy	ابال نمائی
Eccentric	لامرکز - بے مرکز - خارج المرکز
— anomaly	خارج المرکز بے قاعدگی
— pole	بے مرکز قطب - خارج المرکز قطب
Eccentricity	بے مرکزی - خروج المرکز

E

E (Music)	گا
E (E. M. F.)	ق (ق م ب)
e (Electron or its electric charge)	ب
e (Natural logarithmic number)	مو (قو)
E (Energy)	ت (توانائی)
E_k (Energy kinetic)	$ت_ح$
E_p (Energy potential)	$ت_ق$
E (Electron field strength)	ق
E (Young's modulus of elasticity)	ی
Ear-trumpet	کن ترم
Earth	(۱) ارض - زمین (۲) ارضیہ
— coil	ارضی لچھا
— current	ارضی رو
— detector	ارضی شناسندہ
— fault	ارضی نقص (خطا)
— impedence	ارضی مقاومت
— induction	ارضی امالہ
— inductor	ارضی امالہ گر
— potential	ارضی قوہ

Dust core	غبار قلب
— storm	طوفان غبار
Dutch telescope	ولندیزی دوربین
Dynamic braking	حرکی بریک
— characteristic	حرکی خواص
— condensor electrometer	حرکی‌مکثفہ برق پیما
— cooling	حرکی خنکاؤ
— equilibrium	حرکی توازن
— friction	حرکی رگڑ
— impedence	حرکی مقاومت
— landspeaker	حرکی آنسہ مکمر صوت
— pressure	حرکی دباؤ
Dynamic sensitivity	حرکی حساسیت
— stability	حرکی استقامت
Dynamical analogous	حرکی مماثل
Dynamics	حرکیات ۔ علم حرکت
Dynamo	ڈائنمو
Dynamometer	حرکت پیما
Dynatron oscillator	ڈائی نیٹرون ۔ احترازکار (جھولیا)
Dyne	ڈائن
Dynetric balancing	ڈائنی توازن گری
Dynode	ڈائنوڈ - ڈائینیرہ
Dyotron	ڈائینوٹرون

Dual network	دوہرا جال ۔ دوہرا نظام
Dual - track recording	دوراہی نگامشتن
Dualism (Dualism)	ثنویت ۔ دوئیت
Dualistic	ثنوی
Duality	ثنویت ۔ دوئی -
Dubbing	لقب دینا ۔ ترکرنا
Dubh	دبھہ
Duct,	تار - قنات
Ductile	تار پذیر
Ductilily	تار پذیری -
Duha (or leonis or zosma)	ظہرالاسد
Dummy antenna	ساکت محسہ
Dummy indices	ساکت قوتیں (نما)
Dummy load	ساکت بوجھ
Duodecimal	اثنا عشری ۔ اثنا اشاریہ
Duodiode	مزدوج ثانیرہ
Duolateral coil	دوخطی لچھہ
Duplet	مزدوجہ
Duplex telegraphy	ثنائی تار برقی
Duplicity	مثنیٰ
Duplicate	دہرانا
Duplicate ratio	مثنیٰ نسبت
Duralumin	دورالومین (ایک قسم کا بھرت)
Dust	غبار

Drag-Angle	روک زاویہ
— coefficient	روک سر - مانع سر
Drag effect	روک اثر۔ مانع اثر
Dragon's tail	دنب التنین
Drift	سرکنا - کھلنا
— absolute	مطلق سرکاؤ
— per. cent signal	فی صد اشاری سرکاؤ
— mobility	سرکاؤ سیلان پذیری
— space	سرکاؤ خلاء - سرکاؤ مقام
Driving (wheel)	چلاؤ (پہیا)
Driving - point impedence	چلاؤ نقطہ مفادت
Driver	چلانے والا - رانندہ -
Drizzle	پھوار
Drop	گرنا - قطرہ -
Drop -electrode	قطرہ برقیرہ
Dropweight	قطرہ وزن
Drum	ڈھول - بیلن - پردہ۔ طبلہ
Drum (of the ear)	کان کا پردہ
Drum armature	ڈھول محافظ - ڈھول آرمیچر
Drum speed	ڈھول چال
Dry - cell	خشک خانہ
Dry-disc rectifier	خشک طشت - تصحیح گر
Dual modulation	دوھرا کم بیشہ

—	current system	مزدوج بروی نظام
—	circuit	مزدوج روی دوره
—	delta connection	مزدوج ضد وصل
—	diode	مزدوج ثانیره
—	diode-triode	مردوج ثانیره ثلثیره - سہقیره
—	integral	مزدوج تکملہ - دوہرا تکملہ
—	limit	مزدوج نہا - دوہری انتہا
—	plug switch	دو ڈاٹی کھٹکا
—	refraction	مزدوج انعطاف - دو نا انعطاف
—	series	مزدوج سلسلہ
—	Stars	مزدوج ستارے- نجوم مزدوج
—	Transsister	مزدوج بدلروک
Double-valued function		دوہری قیمت والا تفاعل
Dough-nut		نان حلقی - ڈونٹ
Dove-prism		تمصی منشور
Downward pressure		نیچ وار دباؤ - زیرین دباؤ
Draco (Dragon)		تپین - عرس اصغر
Draconides		تنینیہ
Draconis (or Thuban)		ثعبان - الف تنین
Draconis (or Alwaid)		عوائد
Draconis (Etanin)		راس التنین
Drag		گھسٹنا - روکنا - مانع - روک

— structurer	علاقی ڈھانچہ
— theory	علاقی نظریہ
Dominant chord	میل تان
Donor	معطی - دیں ہار- دھند
— energy level	معطی توانائی سطح
— impurity	معطی نا خالصیت
Doppler effect.	داپلر اثر
Dopplers' principle	داپلر اصول
Dorado xiphias (sword fish)	سمکہ سیافہ
Doradus	نیر سمکہ سیافہ
Dose (Dosage)	خوراک
Dose, Air	ہوائی خوراک
Dose-meter	خوراک پیما
Dot generator	بندی مکوں - نقطہ مکوں- نقطہ جنک
Dot-cross notation	بندی - چلیپائی علامت
Double	دوگنا - دوہرا - مزدوج
Duble amplitude	دوہرا حیطہ - مزدوج حیطہ
— bridge (Kelvin)	مزدوج پل - دہرا پل
— base-diode	مزدوج اساسی قطبین
— barelled pump	مزدوج پیمائی پمپ - دونلا پمپ
— beta disintegration	مزدوج بیٹا- تکسر
— cone	مزدوج مخروط - دوہرا مخروط

Divergent	منفرج ۔ متسع ۔
Divergent (pencil)	منفرج ۔ متسع (شعاع کا گروہ)
Diverging	پھیلانے والا ۔ انفراجی ۔ موسع
— lens	موسع (عدسہ)
— point	نقطۂ اتساع
— shadow	ظل متسع
Diversity factor	انفراجی جزو
— system	انفراجی نظام
Divertor	انفراج گر ۔ انفراج کار
Divided circuit	منقسم دورہ ۔ منقسم حلقہ
— head	منقسم سر
Dividing network	تقسیمی جال
Diving belt	ظرف غواص
Division	فصل ۔ تقسیم
Divisibility	انقسام
Dividend	مقسوم
Dividends	تفصیل نسبت
Divisor	مقسوم علیہ
Dodecagon	بارہ ضلعی ۔ اثنا عشری
Dodecahedron	بارہ سطحی
Dog Star (Sirus)	کلب الجبار
Dolphia	دلفین
Domain	علاقہ

— point	تقسیم کار نقطہ
Distribution coefficient	تقسیمی سر
— control	تقسیمی نظم ۔ تقسیمی ضبط
— function	تقسیمی تفاعل
— law	قانون تقسیم
— of velocities	رفتار کی تقسیم
Distibutive law	تقسیمی قانون
Distributor	تقسیم کار ۔ تقسیم گر ۔ قاسم
Disturbance	خلل
Disturbing forces	خلل انداز قوتیں ۔ مخل قوتیں
Diurnal	یومی ۔ روزانہ
— motion	یومی حرکت
— path	مدار یومی ۔ یومی راستہ
— abberation	یومی ضلالت ۔ یومی کجروی
Diurnal arc	قوس النہار
— liberation	یومی تمائل
Divarient	دو تغیری
Diver	غوطہ خور ۔ غوطہ زن
Diverge	پھیلنا ۔ کھلنا
Divergence	پھیلاؤ ۔ انفراج ۔ اتساع
Divergence (of Leaves)	انفراج (پتیوں کا)
Divergence loss (Sound)	انفراجی نقصان (صوت)
— theorem	انفراجی مسئلہ

— theory	نظریۂ انفصال
Dissolve	حل ہونا ۔ حل کرنا ۔ گھولنا ۔ گھلنا
Dissonance	بد آہنگی
Dissimillar	غیر مشابہ
Dissymmetrical network	غیر تشاکلی جال
Dissymmetrical transducer	غیر تشاکلی تبدیل کار
Dissymmetry factor	غیر تشاکلی جزو
Distance	فاصلہ
Distance (least) of distinct vision	واضح رویت کا (اقل) فاصلہ
Distillation	کشید
Distilled water	آب کشید
Distinct	واضح
Distorted	مسخ شدہ
Distorted wave-form	مسخ شدہ موجی صورت
Distortion	مسخ
Distortion , Delay	تاخیری مسخ
— , Deviation	انحراف مسخ
— , Frequency	ارتعاشی مسخ
— , Harmonic	ہم آہنگی مسخ
Distributed capacitance	تقسیم شدہ گنجائش ۔
Distributing main	صدر تقسیم کار

— complex	ملتف نقل مکان ۔
Displacement current	نقل مکانی رو۔
— curve	هٹاؤ منحنی ۔ نقل مکان منحنی
— , Electric	برقی نقل مکان ۔
— interferometer	نقل‌مکانی تداخل‌پیما
— laws	قوانین نقل مکان ۔
— , Linear	خطی نقل مکان
— resonance	هٹاؤ گمک ۔ نقل مکانی گمک ۔
— rule	قاعدہ نقل مکان
Disruptive charge	ترکیدگی بار ۔ شقی بار ۔ تخریبی‌بار
— strength	ترکیدگی زور ۔ شقی زور
Dissector tube	تشریح گر نلی
Dissipation	پراگندگی ۔ اسراف
Dissipation factor	اسرافی جزو
Dissipative force	اسراف کن قوت
— function	اسراف کن تفاعل
— system	اسراف کن نظام
Dissociation	انفصال
Dissociation constant	تفریقی مستقل ۔ انفصالی مستقل
— continua	انفصالی تسلسلہ
— , Degree of	انفصالی درجہ

— effect انتشاری اثر

— , Electric برقی انتشار

— forces انتشاری قوتیں

— formula انتشاری کلیہ

— in gases گیسوں کا انتشار

— , Irrational غیر منطقی انتشار

— , Linear خطی انتشار

— , Medium of انتشار کا واسطہ

— of rotation گردشی انتشار

— of sound in gases گیسوں کا صوتی انتشار

— power انتشاری طاقت

— reciprocal linear عکس خطی انتشار

Dispersional frequency انتشاری تعدد ۔

انتشاری ارتعاش

Dispersity انتشاریت ۔

Dispersive power منتشر کن طاقت ۔

Dispersivity (Diffrential refractivity دیکھئے)

Dispersoid انتشارسا

Displaced fluid ہٹایا ہوا سیال

Displacement ہٹاؤ ۔ نقل مکاں

— , Angular زاویئی ہٹاؤ ۔

— , Antiresonance ضدگمکی ہٹاؤ

— cell نقل مکانی خانہ ۔ نقل مکانی خلیہ

— prequency	ممیز گر ارتعاش - ممیز کار تعدد
Dish	طشتری
Disintegration	تکسر
— chain	تکسری زنجیر - تکسیری سلسلہ
— constant	تکسری مستقل -
— constant, partial	جزوی تکسری مستقل
— energy	تکسری توانائی -
Dislocation	بے محل - بے جائیگی اختلال
Dislocation (s), Density of	بدرائی کی کثافت
— , Edge	کنارۂ بدرائی
Dislocation, Energy of	بدرائی کی توانائی
Disorder, Entropy of	بے ترتیبی کی ناکارگی
Disorder, Pressure	بے ترتیب دباؤ -
Dispergator (Emulsion)	شیرہ گر - (دیکھئے
Disperse medium	انتشاری واسطہ
— partial	جزوی انتشار
— phase	انتشاری ہئیت
Dispersing system	انتشاری نظام
Dispersion	انتشار
— , Acoustic	صوتی انتشار
— , Anomalous	بے قاعدہ انتشار

Discharge (n)	اخراج ـ خروج
Discharge (v)	بے بارکرنا ـ خارج کرنا ـ تخرج ـ
— coefficient of	خروجی سر ـ اخراجی سر ـ
— , Gaseous	گیس خروج ـ گیسی اخراج
— , Submerged	غریق اخراج ـ
— tube	خروجی نلی ـ اخراجی نلی ـ
— tube rectifier	خروج نلی راست گر
Discharger	بار ربا ـ
— , Universal	عمومی بار ربا ـ
Discontinuity	انقطاع ـ عدم تسلسل
Discontinuous	غیر مسلسل ـ مقطع
Discard	بے کار ـ علیحدہ
Discord	ناھموار
Discount	متی
Discovery	دریافت ـ انکشاف
Discrepancy	تناقص
Discretenes	احتیاریت ـ
Discriminant	ممیز
Discriminating cubic	ممیز کعبی ـ
Discrimination column	ممیز کالم ـ ممیز ستون ـ
Dircriminator	ممیز گر ـ ممیز کار
— circuit	ممیز گر حلقہ ـ ممیز کار دورہ

Directed covalent bond	راست هم گرفتی رشته
Direction	سمت - جهت - رخ -
Direction angle	سمتی زاویه
— cosine	سمتی جم (سمتی جیب‌التمام)
— ratio	سمتی نسبت
— finder	سمت نما
— of projection	تسطیحی سمت- ظل سمت
Directional	سمتی - رخی -
— response pattern	سمتی حوابی طرر
Directive	سمت آور - اشاری
— aerial	اشاری هوائیه -
— gain	سمت آور نفع -
— pattern	سمت آور طرر -
Directivity	سمت آوری -
— factor	سمت آوری جزو -
— index	سمت آوری قوت نما
— pattern	سمت آوری طرز
Director	هدایت کار - هادی - مرتب -
Director circle	هادی دائره - مرتب دائره
Directrix	دلیل
Disc	قرص - طبق - طشت -
— siren	قرص دار گائن

Dip of horizon	میلان افق
Diphada	ضفدع
Dipole	دو قطبی ۔ قطبین
— antenna	دو قطبی محسہ ۔ قطبین محسہ
— electric	برقی دو قطب ۔ برق قطبین
— momcent	دو قطبی معیار اثر
— orient	دو قطبی تشریق
— radiation	دو قطبی اشعاع
— relaxation	دو قطبی تحفیف ۔ دو قطبی سستی
Dipper	دب اکبر
Dirac delta function	دیراک کا ضہ تفاعل
Diracs equation	دیراک مساوات
Direct	راست ۔ بلا واسطہ۔ واسطہ ۔ دراہ راست
— coupling	بے واسطہ جفتانا ۔ راست جفتانا ۔
— image	راست خیال ۔ بے واسطہ خیال
— motion	راست حرکت ۔ بے واسطہ حرکت ۔
— stroke	راست ضرب ۔ بے واسطہ ضرب
— vision	راست بینائی ۔ راست رویت
— — power	راست بصری طاقت ۔
— — spectroscope	راست بصری طیف نما
— sum	راست مجموعہ

Dimensional analysis	حسامتی تشریح
Dimensonal constant	حسامتی مستقل
Dimensional formula	حسامتی ضابطہ
Dimose	دیموس ۔ دائموس
Dina	دینا
Diode	دوقیرہ
— , catching	۔ گیر دوقیرہ
— , crystal	قلمی دوقیرہ
— , demodulator	ناکم بیشہ دوقیرہ
— , doble Base	دو اساسی دوقیرہ
— , equivalent	مساوی دوقیرہ
— , junction	دوقیرہ سنگم
— , semi.conductor	نصف موصل دوقرہ
Dione	دیونہ
Dionysian period	دیو سینی دور
Dioptre (unit)	بصریہ (اکائی)
Dioptric system	بصری نظام
Dioptrix	علم مرایا-انحراف نور
Diotron	ڈایوٹرون
Dip	میلان
Dip-circle	میلانی دائرہ
Dip-needle	میلانی سوئی ۔ مائل سوئی

— length	نفوذی طول
— of gases	گیسوں کا نفوذ
— polarization	نفوذی تقطیب
— potential	نفوذی قوہ
— pump	نفوذی پمپ
— time	نفوذی وقت ۔ وقت نفوذ
Diffuser	نفوذ گر
Diffusive substance	نفوذی شے
Diffusiometer	نفوذ پیما
Diffusivity	نفوذیت
Dig - in angle	کندہ زاویہ
Digits	ہندسے
Digital computar	ہندسی تخمین گر
Digression	انحراف ۔ تجاوز
Dihedral	دوسطحی
Diheptal base	دوہفتی قاعدہ
Dilation	بست ۔ کشاد
Dilatometer	بست پیما ۔ کشاد پیما
Dilute	ہلکا
Diluted	ہلکایا
Dilution	ہلکاؤ ۔ ترقیق
Dimension (s)	بعد(ابعاد) جسامت ۔ سمت ۔ طرف پیمائش

Differentiating circuit	فرقی دورہ ۔ فرقی حلقہ
— network	فرقی حال ۔ فرقی نظام
Differentiation	تفرق ۔ تفرقہ
Diffraction	انکسار ۔ تکسر
— of light	انکسار ۔ نور
— sound	انکسار صوت
— grating	انکساری جالی
— pattern	انکساری انداز ۔ انکساری طرز
— spectrum	انکساری طیف
— symmetry	انکساری تشا کل
Diffracted Rays	مکسر شعائیں ۔ تکسیری شعائیں
Diffuse (series, spectrum), to	نمود ہونا
	نفوذ کرنا (سلسلہ طیف)
Diffusion	
— analyzer	نفوذی تشریح گر
— cloud chamber	نفوذی بادل خانہ
— coefficient	نفوذی سر
— column	نفودی کالم ۔ نموذی ستون
— constant	نفوذی مستقل
— current	نفوذی رو
— equation	نفوذی مساوات
— indicatrix	نفوذی ترسیم
— layer	نفوذی تہہ

—	hysteresis	بین برقی اختناق
—	isotropic	بین برقی ہم اطراف
—	phase Angle	بین برقی ہئیتی زاویہ
—	polorization	بین برقی تقطیب
—	strength	بین برقی زور
—	wedges	بین برقی فانے
Difference		اختلاف-فرق
—	tone	تفریقی سر
Differential analyzer		تفرقی تشریح گر ۔ تحزیہ کار
—	axle	تفرقی محور
—	calculus	تفرقی احصا ۔ احصائے تفرقات
—	coefficient	تفرقی سر ۔ تفریقی سر
—	equation	تفرقی مساوات
—	system	تفرقی مساوات کا نظام
Differetial, galvanometer		تفرقی گیلون پیما
—	manometer	تفرقی فشار پیما
—	method	تفرقی طریقہ
—	refractivity	تفرقی انعطافیت
—	steam calorimeter	تفرقی بھاپ حرارہ پیما
—	screw	تفرقی پینچ
—	total	کل تفرقی ۔ کل تفریقی

Diathermanous	حرگزار
Diathermy	حرگزار علاج
Diatomic	دو جوہری
Diatonic	اٹھ سرا
Dice	مہرہ۔پانسہ
Dichroism	دو رنگی ۔ دولونی
,, **circular**	دو رنگی دولونی ۔ مدور دو رنگی
Dichromatism	دورنگ شناسی (ایک بیماری جس میں صرف دو رنگ نظر آتے ہیں)
Dichotomize	تنصیف
Dicroscopic eyepiece	تقطیب نما چشمہ
Didymium glass	ڈاڈیمیئم شیشہ۔ دو عناصر کے آمیز کا نام (نیوڈیمیم اور پارا سوڈیم کا آمیزہ)
Dielectric	بین برقی
— **absorption**	بین برقی انجذاب
— **anisotropic**	بین برقی ناهم اطراف
— **antenna**	بین برقی محسسہ
— **breakdown**	بین برقی تعطل
— **constant**	بین برقی مستقل
— **current**	بین برقی رو
— **dissipation factor**	بین برقی اتلافی جزو
— **heating**	بین برقی حدت

— equaliser	وتری مساوی گر
— type of commutator	وتری مقلب ـ وتری قسم کا مقلب
Diagram	شکل ـ خاکہ
Dial	ڈائل ـ چہرہ
Dialysis	رق پاشیدگی
Dialyser	رق پاشندہ ـ رق پاش
Dialytic	رق پاشیدگانا ـ بین تحلیل
Diamgnecic	عرض مقناطیسی ـ کم مقناطیسی
Diamagnetism	عرض مقناطیسیت ـ کم مقناطیسیت
Diameter	قطر
Diameters, apparent	ظاہری قطر
Diameter, angular	زاویٔ قطر
,, conjunate	مزدوج قطر
,, equatorial	استوائی قطر
,, polar	قطبی قطر
,, real	حقیقی قطر
Diameteral voltage	قطری مقدار وولٹ
Diamond	ہیرا-الماس
Diamond antenna	الماسی محسہ
Diaphanometer	شفافیت پیما
Diaphragm	جھلی-دیافرغمہ ـ ڈایافرام
Diathermancy.	حرگزاری

Develop (Photography)	آشکار کرنا ـ آشکارنا
Developable	قابل آشکار ـ انکشاف پذیر
Developer	آشکار گر
Development	آشکار گری ـ ترق دینا
Deviation	انحراف
— , frequency	ارتعاشی انحراف
— , loss, angular	زاویہ انحرافی نقصان
— , minmium	انحراف کا اقل زاویہ
— , phase	ھئیتی انحراف
— , ratio	انحرافی نسبت
— , sensitivity	حساسی انحراف
Devitrification	ان شیشاؤ ـ ازالہ شیشاؤ
Dew	شبنم
Dew Point	شبنم نقطہ
— — hygrometer	شبنم نقطہ رطوبت پیما
— — method	شبنم نقطہ طریقہ
Dewar flask	ڈیوار صراحی۔
Dewar vessel	ڈیوار برتن
Dextrorotatory	راست گردانی ـ راست گردشی
— power	راست گردشی طاقت
Diagonal	وتر
— eye piece	قطعہ عینیہ وتری ـ وتری چشمہ

Descension oblipue	تغرب مائل
Descensional differance	تفاوت تغربی
Desensitization	ازالہ حساسیت
Desorption	ناجذب
Destructibility	فنا پذیری
Destruction	فنا
Detachable	فصل پذیر
Detached coefficient	منفردہ سر
Detection	شناخت ۔ کشف
Detector	شناسندہ ۔ کاشف
— , Humodyne	ہم ڈائن کاشف
— , Infinite Impedence	غیر متناہی مقاومتی شناسندہ
— , Infra red	زیر سرخ شناسندہ
— , Regenerative	بازتکوینی شناسندہ
— , Synchronous	ہم وقتی شناسندہ
Detergent	مصفی ۔ مطہر
Determinate	معین
Determinate structure	معین ساخت
Determination	تعین
Detonating meteors	شہب متفرقہ
Detortion	بل ربائی
Detuning	بے سر کرنا ۔ بے سرانا

Depositon, potential	انداحتی قوه
Depression	پستی - اتار
Depression of the pole	قطبی پستی
Depression of the horizen	افقی پستی
Depth	گہرائی ـ عمق
Depth magnification	عمق کی تکبیر
Depth of field	میداں کی گہرائی
Derivative	مشتق ـ مستخرجہ ـ تفرق
— , Direction	سمتی مشتق ـ سمتی مستخرجہ
— , Higher	اعلیٰ مستخرجہ
— , Partial	جزوی مشتق - جزوی مستخرجہ
— , Total	کلی مشتق ـ کلی مستخرجۂ
Derived function	ماخود تفاعل ـ مشتق تماعل
Derived units	ماخوذ اکائیاں
Descartes laws of refraction	دیکارت کا قانون انعطاف
— rule of sign	دیکارت کا اصول نشان
Descending power	نزولی قوت
Descending node	نزولی عقدہ
Descending order	نزولی ترتیب
Descend	ہبوط ـ نزول ـ زوال پانا
Descension	تغرب ـ زوال
Descension right	تغرب مستقیم

Deneb kaites	دنب قیطس
Deneb al - okab	ذنب العقاب
Deneb alshumali	ذنب الشمالی
Denominator	نسب نما
Dense	کثیف
Dense (optically)	کثیف (بہ اعتبار نور)
Dense set	کثیف دستہ ۔ کثیف سلسلہ
Densemeter	کثیف پیما
Density	کثافت
Densitometer	کثافت پیما
Denumerable	ناقابل شمار
Dependent	تابع
— variable	تابع متغیر
Dephada	ضفدع
Depolarization	تقطیب ربائی
Depolarization Field	تقطیب ربائی کا میدان
Depolarizer	دافع تقطیب
Depolariser	تقطیب ربا۔
Depolarising (Agent)	تقطیب ربا (کارندہ)
Deposite (v)	انداخت کرنا
Deposite (n)	انداخت
Deposition, Electrical	برقی انداخت

Demagnetised	ازالہ شدہ مقناؤ۔ ختم کیا ہوا مقناؤ
Demagnetising field	ازالہ کار میدان
Demal solution	ڈیمل محلول
Demand indicator	طلب نمائندہ
Demodulation	ناکم بیشی
Demodulator	ناکم بیشہ گر
— , Diode	ثانیری ناکم بیشہ گر
— , Envelope	لفافی ناکم بیشہ گر
— , Frequency	ارتعاشی ناکم بیشہ گر
Demodulator, Product	ماحصل ناکم بیشہ گر (ناکمبیشگر)
— , Rectifier	تصحیح گر ناکم پیشہ گر (ناکمبیشگر)
— , Square Law	قانون مربع ناکم‌بیشہ گر (ناکمبیشگر)
Demountable Tube	قابل علیحدگی نل
Denary	عشری
Denary Scale	عشری پیمانہ
Deneb (or Leonis)	ذنب‌الاسد
Deneb Alcat	ذنب الاسد
Deneb (Adige or a Cygni)	ذنب‌الدجاجہ
Deneb Algenubi	ذنب الجنوبی
Deneb Algiedi (or Capricorni)	ذنب الجدی

Delayed cable	موخرطناب ـ موخر حبل ـ تاخیری طناب
Delbruck scattering	دلبروک بکھراؤ
Delicate (Balance)	نازک (ترازو)
Deliquesce	پسیجنا
Deliquescence	پسیجن
Deliquescent	پسیجنے والا
Delivery pipe	نکاس نل
Delivery tube	نکاس نلی
Dellinger effect	دلنجر اثر
Delocalization energy	غیر مقامی توانائی ـ نامقامی توانائی
Delphini	راس الدلفین
Delphinus	دلفین
Delta	ضد ـ مثلث ـ ڈیلٹا
— connection	مثلث وصل
— function	ضد تفاعل
— machine transformer	ضد مشین بدل گر
— net work	مثلث جال
— voltage	ضد وولٹ
Deltamax	ڈیلٹا مکس (نکل اور لوہے کی بھرت)
Demagnetise	مقناؤ دور کرنا ـ ازالہ کرنا
Demagnetisation	ازالۂ مقناطیست ـ مقنا رہائی

Degree of dissociation	درجه علیحدگی (بجوگ)
— — freedom	درجه آزادی
Degree of variance	درجه تغیر - درجه اختلاف
Dehumidification	نامرطوبیت
Dehydrant	نابنده
Dehydrated	نابیده
Dehydrating	نابیدگی
Dehydration	نابیدگی
Deimos	دیموس
Deionisation potential	نارواني قوة
Deionisation time	نارواني وقت
Dekagram	دس گرام (ڈیکا گرام)
Dekaliter	دس‌لیٹر (ڈیکا لیٹر)
Dekameter	دس میٹر - عشر پیما
Dekatron	دیکا ٹرون
Del	ڈیل (▽)
Delay	تاخیر
Delay circuit	تاخیری دور (دوره)
— distortion	تاخیری مسخ
— equalizer	تاخیری مساوی‌گر
— line memory	تاخیر خطی یاد داشت
— — register	تاخیری خطی رجسٹر
Delay Alpha particles	تاخیری ھد ذرات

Defination	تعریف
Definition circle	تعریفی دائرہ
Deflecting (field)	انصرافی (میدان)
Deflection	انصراف
Deflection defocussing	انصرافی لاماسکانا (اماسکانا)
— method	انصرافی طریقہ
— sensitivity	انصرافی حسیت
— test	انصرافی جانچ
Deflector coil	انصراف گر لچھا
Deformation	مسخ - تبدیل صورت - بگاڑ
Deformation band	مسخ پٹی - مسخ بند
— potential	مسخ قوۃ
De-gas	گیس ربانا
Degasification	گیس ربائی
Degaussing	گاز ربائی
Degenerate (system)	فاسد (نظام)
Degeneracy	فساد
Degeneracy, Accidental	حادثاتی فساد
Degeneration	فساد - تنزل - انحطاط
Degradation (Sound)	تنزل (آواز)
Degree	درجہ
Degree of centigrade	درجہ سینٹی گریڈ

— of parallax	بعدی اختلاف منظر ـ
	انصرافی احتلاف متظر
— , The greatest	بعدکلی ـ بعد اعظم ـ
	انصراف کلی ـ انصراف اعظم
Declinator	مقیاس المیلان - مقیاس الانصراف
Declinometer	انصراف پیما
Decoder	رمز شناس ـ رمز کشا
Decoupling	علیحدگی ـ توڑنا ـ لاجفتانا
Decomposition	تحلیل ـ
Decomposition, Sensitized	حساسی تحلیل
Decrement (Log)	تخفیف (لوکارثمی)
Decrement gauge	مقیاس تخفیف
Decremeter	تخفیف پیما ـ تخفیپیما
Decrepitation	قروق
Defect	نقص ـ کمی
Defect conduction	نقصی ایصال
Deffered annuity	ملتوی سالیانہ
— perpetuality	ملتوی دوامی
Definite	معین ـ محدود
Definite integral	محدود تکملہ
— time lag	محدود وقتی تاخیر ـ
	معین وقتی تاخیر
Defiinite velocity	معین رفتار ـ محدود رفتار

Decay characteristic	زوالی خصوصیات
Decay coefficient	زوالی سر ـ زوالی شرح
Decay curve	زوالی خم ـ زوالی منحنی
Deacay family	زوالی خاندان
Decay law, Radioactive	تابکاری کا زوالی قانون
Decay modulus	زوالی معیار
Decentralise	لا مرکزانا ـ لا مرکز کرنا
Decentred lens	لا مرکز عدسہ
Deci	عشری
Decibal (Decibel)	عشری دل
Decile	تعشیر
Decimal	اعشاریہ
Decimal balance	اعشاری توازن ـ اعشاری ترازو
Decimal fraction	اعشاری کسر ـ کسر اعشاریہ
Decimeter	عشر پیما ـ
Deck	عرشہ
Declination	میل ـ بعد ـ انصراف ـ عدول
— **angle**	بعدی زاویہ - انصرافی زاویہ
— **axis**	بعدی محور ـ انصرافی محور
— **circle**	بعدی دائرہ ـ انصرافی دائرہ
— **parrllel**	بعدی متوازی ـ انصرافی متوازی
— **of the compass**	کمپاس کا انصراف ـ کمپاسی میلان ـ

Day, Mean solar	یوم شمسی وسطیٰ
Day, Tidal	یوم مدی
Day, Siderial	یوم نجمی
Day, True Star	یوم حقیقی
Day, Solar or natural	یوم شمسی - یوم طبعی
Besssel's day number	بیسل کے اعداد یومیہ
The longest day	اطول النہار - طویل ترین دن
The shortest day	اقصرالنہار - قصیر ترین دن
Deaccentuator	غیر مؤکد
Dead band	عیر مرثر بند
Daniel cell	دانیالی حانہ
Dead beat	جلد رکن
Dead room	غیر مؤثر کمرہ
Dead space	غیر مؤثر جگہ
Dead spot	غیر مؤثر خال (مقام)
Debunching	انتشار - بکھراؤ
Daca	دھا - دسا
Decagon	معشر - دس ضلعی
Dcalescence	کم تپیدگی
Decametric waves	دھا میٹری امواج
Decay	زوال
Decay chain	زوالی سلسلہ

Daraf	درف
Dark	تاریک ـ تار ـ مظلم
Dark adaptation	تار تطبیق
Dark conduction	تار ایصال
Dark current	تار رو ـ تاریک رو
Dark discharge	تار اخراج
Dark glasses	اندھا شیشہ - تار شیشہ
Dark ground illumination	تار زمینی چراغاں
Dark lines	تار خطوط ـ گہرے خطوط
Dark rays	تار شعائیں ـ تاریک شعائیں
Dark space, farady	فیراڈے کا تار علاقہ
Dark spot	تار داغ ـ تار دھبہ
Data	معطیات ـ معلومات
Date	تاریخ - یوم
Daughter element	دختری عنصر
Dawn	فلق ـ فجر
Day	دن ـ یوم ـ نہار ـ روز
Day, Artificial	یوم مصنوعی ـ یوم اصطلاحی
Day, Astronomical	یوم فلکی
Day, Apparent solar	یوم شمسی ظاہری
Day, Civil	یوم قانونی
Day, Lunar	یوم قمری
Day, Star	کوکبی یوم ـ نجمی یوم

Dado	روغنی حاشیہ
Dafirah (Denebola)	ضفیرہ ۔ ذنب الاسد
Dahl Kirkam telescope	ڈھل کر کام دوربین
D, Alembert principle	دالمبرتی اصول
— test	دالمبرتی جانچ
D, Alembertian	دالمبرتی
Daltons law	دالٹن کا قانون
Damp (verb)	قصر کرنا ۔ تقصیر
Damped	مقصور
Damped oscillation	مقصور اہتزاز
Damped vibration	مقصور ارتعاش
Damped waves	مقصور امواج
Damper	مدھم کار ۔ قاصر
— winding	پیچ نما قاصر
Damping	تقصیر ۔ قصر کرنا
Damping, Critical	فاصل تقصیر
Damping factor	تقصیری جزو ۔ تقصیری عامل
Damping, Linear	خطی تقصیر
Damping, Logarithmic	لوکارثمی تقصیر
Damping optimal	مناسب ترین تقصیر
Damping ratio	تقصیری نسبت
Damping tube	تقصیری نلی
Danger coeifficient	خطری سر ۔ خطری شرح

D

D (Music)	رے (موسیقی)
D, d (Density)	ث (کثافت)
D (Density of electrical flux)	ث
D (Optical density)	ث
D, d (Diameter)	ق (قطر)
D (Diffusion)	ن (نمود)
D, d (Distance)	فہ (فاصلہ)
Ḋ (Angular dispersion)	ا (زاوئی انتشار)
D (Electric displacement)	ھ (برقی ھٹاؤ)
D (Displacement flux density)	ھ
D (Deuterium)	D (ڈیوٹیریم کی علامت)
d — (Dextrorotatory)	ر (راست گردشی)
d (Differential)	فر (تفرقی)
D (Spacing of Bragg plane in a crysral)	ف (فصل)
d (Grating space)	ف (فصل)
D (Angle of minimum deviation)	ا (انحراف)
d (Unres lved doublet)	د
d (Electron with azimuth quantum No.2)	د
D (Sodium line)	د

Cycles of Sun	ادوار شمس - ادوار شمسی
Cyclic	دوری - دائروی
Cycloid	دورا سا
Cycloidal (Teeth)	تدویری (دندانے) دوراسائی
Cycloidal Pendulum	تدویری لنگر - دوراسائی لنگر
Cyclical	دوری - مستدیر
Cyclometer	دور پیما
Cyclone	گرد باد
Cyclotron	سائکلوٹرون
Cygni (or Alberco)	منقارالدجاجہ
Cygni (or Arided, Deneb adige)	ذنب الدجاجہ
Cygni (or Sadir or Sadr)	صدرالدجاجہ
Cygnus (the Swan)	دجاجہ
Cylinder	اسطوانہ - بیلن
Cylinder, Measuring	پیمائشی اسطوانہ
Cylinderical	اسطوانی
Cylindrical Coordinates	اسطوانی محددات
Cylinderoid	اسطوانہ سا
Cymograph	موج نگار
Cymometer	موج پیما
Cyno Sura	نجم القطب - قطب تارہ
Cyno Sure	ذنب الکلب

Curl	گھونگھر
Cursa (or Eridani)	کرسی الحورا ـ عرش الجوزا
Current	رو
Current co-ordinates	روانی محددات ـ روی محددات
Current strength	روکی مقدار ـ روکی قوت
Curvature	خمی ـ انحنا ـ خم
Curve	خط ـ منحنی
Curve tracing	منحنیات کی ترسیم
Curved line	خمدار خط
Curved tube	خمدار نل
Curvilinear	خمدار
Curvilinear motion	حرکت منحنی ـ منحنی حرکت
Curvilinear coordinates	منحنی محددات
Curvilinear figure	شکل منحنی
Curvilinear Integral	منحنی (منحنی خطی) تکملہ
Cusp	آنی ـ قرن
Cuspidol	قرنی
Cutout	کٹنی
Cycle	دورہ ـ دوریہ
Cycles, Great	ادوار اعظم
Cycles, Small	ادوار صغیر
Cycles of Eclipse	ادوار کسوف
Cycles of moon	ادوار قمر

Cryscopic	برف نماتی
Cryostat	برف قرار
Crystal	قلم
Crystal detector	قلم شاش - قلم کاشف
Crystalline	قلمی
Crystalline lens	عدسہ بلوریں - قلی عدسہ
Crystallinity	قلمیت
Crystallisation	قلماؤ - تقلیم
Crystalloid	قلماسا
Cube	مکعب
Cube root	جزو الکعب
Cubic, cubical	مکعب - کعبی
Cubic equation	مساوات درجہ سوم - کعبی مساوات
Cubical expansion	حجمی پھیلاؤ - کعبی پھیلاؤ
Cuboid	مکعب سا
Culminate	اوج پر پہنچنا
Culmination	اوج - تکبد
Culmination lower	اسفل یا تحتی تکبد
Culmination upper	اعلی یا فوقی تکبد
Culminating Point	نقطہ اوج
Cumulants (determants)	ترکیم (ط) - مسلسلہ مقطعات (ر)
Cup	کاس - حدبرد

Critical	فاصل
Critical angle	زاویہ فاصل
Critical stage	فاصل منزل
Critical velocity	رفتار فاصل
Cross-cut	ترچھی کاٹ ۔ چلیپائی کاٹ
Cross magnetisation	ترچھی مقناز ۔ چلیپائی مقناو
Cross multiplication	ضرب چلیپائی
Cross Northern	چلیپی شمالی
Cross ratio	چلیپی نسبت
Cross Section	عمودی تراش
Cross wire	صلیبی تار ۔ متقاطع تار
·Crossed belt	صلیبی پٹہ
Crossed nicol	آزادنکول ۔ صلیبی نکول
Crowbar	کرودار ۔ کرو سلاخ
Crown glass	کلسی شیشہ
Crucible	کٹھالی
Crust of meteorites	قشر (شہاب کا)
Crux	صلیب جنوبی
Cryogenic (lab)	برف زا
Cryohydrate	برفا بیدہ
Cryohydric	برف بیدی
Cryohydric point	برفا بیدی نقطہ
Cryophorous	برف بردار

Counter-clockwise	ضد ساعتی ـ ضد ساعت وار
Counterpart	جوڑ ـ جواب
Couple	جفت
Couple, Thermo	حر جفت
Couple, to	جفت کرنا
Coupled	جفت کردہ ـ جفت شدہ
Coupler	جفت گر
Coupling	جفتہ
Coupling, loose	ڈھیلا جفتہ
Coupling, tight	چست جفتہ
Course (of rays)	راستہ (شعاعوں کا)
Covarient	ہم متغیر
Coversed sine	سہم التمام
Crab	کیکڑا
Crane	کرین
Crank	کرینک ـ گرداں
Crape ring (or Cauge ring)	حلقہ سسم (ملعی)
Crater	مکھ ـ مہرہ ـ دھنس
Crater a Crateris (or Alkes)	فم البرکان ـ الکاس
Crater, Lunar	قمری کاس
Crespescule	شفق ـ فلق
Crescent	ہلال ـ ماہ نو
Crest	فراز

Corresponding points	متناظر نقطے
Corresponding square	متناظر مربع
Corresponding values	متناظر قیمتیں
Corrosion	تآکل
Corvi (Alchiba)	الخباء - جرح الغراب
Corvi (Algoreo)	الغراب
Corvus	غراب
Cosine	جیب التمام
Cosmic (rays)	کائناتی یا کونی (شعاعیں)
Cosmical	کائناتی - کونی - فلکی
Cosmical dust	کائناتی گرد
Cosmogony	تکوین - تخلیق
Cosmographer	ماہر علم کائنات
Cosmography	بیان تکوین عالم - تکوین نگاری
Cosmology	تکوینیات
Cotangent	ظل التمام
Coterminal	ہم اختتامی
Coterminal angles	ہم اختتامی زاویے
Cotes	کوٹیز
Cotidal lines	خطوط المد
Coulomb	کولمب
Counter	شمارندہ
Counter balance	تعدیل کرنا

Cornea	قرنیہ
Corolla (wreath)	تاج گل
Corollary	نتیجہ صریح ۔ فرع
Corona	حاشیہ ۔ اکلیل
— (Australis)	اکلیل جنوبی
— (Borealis)	اکلیل شمالی یا ملکہ
Coronagraph	حاشیہ نگار
Corpuscle	جسیمہ
Corpuscular Theory	جسیمہ نظریہ
Correction	تصحیح
Correction factor	تصحیحی جزو ضربی
Corrective Curve	تصحیحی منحنی
Correlation	ہم رشتگی
Correlation coefficient	ہم رشتگی سر ۔
Correlation ratio	ہم رشتگی نسبت
Correspondence	تناظر
— , one one	یک یک تناظر
Corresponding (rays)	متناظر (شعاعیں)
— angles	متناظرہ زاویے
— axis	متناظر محور
Corresponding Ordinate	متناظر معین
Corresponding lines	متناظر خطوط

Convolutions	لفائف
Cooker	چولھا ـ پحتآلہ (پخت آلہ)
Cooler	سردکار ـ سرد آلہ
Cooling	تبرید
Coonling curve	تبریدی منحنی
Coordinate (s)	محدد
Coordination	ھم ربطی ـ تربید ـ تنسیق
Co-ordinate axis	محدد محور
Co-ordinate Geometry	محددوں کا ھندسہ ھندسہ تحلیلی
Co-periodic	ھم دوری
Copernican system or Theory	کوپر نیکسی ـ نظام یا نظریہ
Coplanar	ھم ستوی ـ ھم سطح
Cor Caroli (or Aslerian and Chara)	قلب چارلس ـ کبدالاسد
— Hydrac	قلب الحیہ ـ فردالشجاع
— Leonis	قلب الاسد
— Scorpionis	قلب عقرب
— Serpentis	قلب شجاع
Cord	ڈوری
Core	قلب
Cork Screw	کاگ پیچ

Controller	ضبط گر ۔ ناظم ۔ داور
Controlling	ضابط ۔ ضابطہ
Controlling force	قوت مقاومہ ۔ قوت ضابطہ
Controlling magnet	مقناطیس ۔ ضابطہ مقناطیس
Convection (Heat)	حمل (حرارت)
Convective current	حمل رو
Convective equillibrium	حمل توازن
Convention	رسم
Conventional	رسمی
Converge	قریب ہونا ۔ سمٹنا ۔ جمع ہونا
Convergence	تقارب ۔ استدقاق
Convergency	تقارب ۔ سمٹاو ۔ استدقاق
Convergency (of meridians)	ہم مرکزی (خطوط نصف النہار کی)
Convergent	متقارب ۔ مستدق ۔ سمٹنے والا
Convergent series	متقارب سلسلہ ۔ مستدق سلسلہ
Converging	سمٹنے والا ۔ سمٹانے والا ۔ تقاربی ۔
Converse	عکس
Conversion	تحویل
Convex	حدبی ۔ محدب
Convexity	ابھار ۔ حدب ۔ تحدب
Convex lens	محدب عدسہ
Convex mirror	محدب (حدبی) آئینہ

Continuity	تسلسل
Continued fractions	کسور مسلسل
Continued Differntiation	تعریق مسلسل ۔ تفرق مسلسل
Continued proportion	تناسب مسلسل
Continuous	مسلسل
Continuous circulation	مسلسل دوران
Continuous current Dynamo	مسلسل رو ڈائینمو
Continuous Function	مسلسل تفاعل
Continuous Graph	مسلسل ترسیم
Continuous Spectrum	مسلسل طیف
Continuum	مسلسلہ
Contour	گھیرا ۔ احاطہ ۔ حائطہ
Contour (of Surface)	گھیرا (سطح)
Contour integration	احاطی تکمل
Contracted	مختصر ۔ سکڑا ہوا
Contraction	سکڑاؤ ۔ اختصار
Contragradient	ضد استحالہ
Contiast	اختلاف ۔ فرق
Contravariant	ضد ۔ متغیرہ ۔ ضد متغیر
Control	ضبط
Control (s)	ضابط پرزے
Controlled action	باقابو عمل

Constellation, Southern	صورت جنوبیہ
Constellation, Zodiacal	صورت البروج
Constitution	ساخت
Constituents	ترکیبی اجزا - اجزائے ترکیبی
Constituent determinants	ارادی جزو - مقطعاتی جزو
Constraint	قید
Constrained body	مقید جسم
Constraining force	قیودی قوت
Constriction	ضیق
Construction	ساخت - عمل
Constructed figure	ساختہ شکل
Contact	تماس
Contact breaker	تماس شکن
Contact of a circle	تماس دائرہ
Contact detector	تماس شناس - تماس کاشف
Contact potential	تماسی قوہ
Contact pressure	تماسی دباو
Contact of a shodow	تماسی ظل
Contamination	آلودگی
Contents	مافیہ
Conterminus	ہم اختتامی
Continuation	تسلسل - سلسلہ

Consecutive (orders)	متواتر (سلسلے)
Consecutive co-efficients	متصل سر ـ متواتر سر
Consecutive Numbers	متواتر اعداد ـ متصل اعداد
Consecutive terms	ارقام متصلہ ـ متصل ارقام
Consequent (Poles)	ثانوی قطب
Consequent ratio	موخر نسبت
Consequentia	غرب مستقیمہ
Conservation	بقا
Conservation of Fnergy	بقائے توانائی
Conservation system of forces	قوتوں کا بقائی نظام
Consistant	ہم آہنگ ـ باثبات
Consonance	ہم آہنگی (صوتیات)
Consonants	ہم آہنگ (صوتیات)
Constancy	استقلال
Constant	مستقل
Constant Quantity	مستقل مقدار
Constant of aberration	کجروی یا ضلالت کا مستقل
Constellation	صورت سماوی ـ شکل کوکبیہ
Constellation, Ascending	صورت صعودی
Constellation, Descending	صورت نزول
Constellation, New and Old	جدید اور قدیم صور
Constellation, Northern	صورت شمالیہ

Conic (s)	مخروطی (مخروطات)
Conic sections	قطع مخروطی ۔ تراش مخروط ۔ مخروطی تراشیں
Conicoid	مخروطی نما
Conjugate	زوجی ۔ مزدوج
Conjugate arms	زوجی پہلو
Conjugate axes	مزدوج محاور ۔ زوجی محاور
Conjugate Diametar	مزدوج قطر ۔ زوجی قطر
Conjugate focii	زوجی ماسکیے
Conjugate functions	مزدوج تفاعلات ۔ زوجی تفاعلات
Conjugate lines	مزدوج خطوط ۔ زوجی خطوط
Conjugate Numbers	مزدوج اعداد ۔ زوجی اعداد
Conjugate Points	مزدوج نقطے ۔ زوجی نقاط
Conjunction	اقتران
Conjunction inferior	اقتران اسفل
Conunction superior	اقتران اعلی
Connector	واصل
Connecting Rod	واصل سلاخ
Connecting Wire	واصل تار
Conoid	مخروط نما
Conormal	ہم عماد

Conducting body	موصل جسم
Conduction	ایصال
Conductivity	موصلیت
Conductor	موصل
Conduit	نلوا
Cone	مخروط
Cone right	مخروط قائم
Cone (oblique or scalene)	مخروط مائل
Cone, Axis of	محور یا سہم مخروط
Cone of a shadow	مخروط ظل
Cone of rays	شعاؤں کا مخروط
Cone, Plane of the	سطح مخروطی - سطح مخروط
Configuration	تشکیل
Confocal	ہم ماسکی - ہم ماسک
Confocal conics	ہم ماسک، مخروطی تراشیں
Conformal	ہم شکل
Conformal correspondence	ہم شکل تماطر
Conformal mapping	ہم شکل ترسیم - ہم شکل - نقشہ کشی
Conformal representation	ہم شکل تعبیر
Congelation	جماؤ
Congruence	استطابق
Congruent	مستطابق

Concentration	ارتکار
Concentrator	مرتکز گر ـ ارتکاز گر
Concentric	هم مرکز
Conchoidal	صدف نما ـ سنکھ نما
Conchoidal motion	صدفی حرکت
Concomitant (s)	هم رو
Concord (consonance)	یکتائی ـ همواری (هم آهنگ)
Concordant	هم آهنگ ـ یکتال
Concurrent	هم نقطه
Concrete quantity	مقرون مقدار ـ مقدار مقید
Concurrence	هم نقطگی ـ تراکز
Concurrent testimony	هم عصر شهادت
Concyclic	هم محیط ـ هم دائره
Condensation	تکثیف
Condensing electroscope	مکثف برق نما
Condensing lens	مکثف عدسه
Condenser	مکثفه
Condition	شرط ـ حالت
Conditionally convergent	مشروطاً متقارب
Conductance	ایصالیت
Conductance (of Heat)	ایصال حرارت

Compound	مرکب
Compound Microscope	مرکب خوردبیں
Compounding (of Ratio)	تالیف (نسبتوں کی)
Compounding (of Vibration)	ارتعاشوں کی ترکیب
Compound Surd	مرکب اصم
Compound wound dynamo	مرکب لپٹ ڈئنمو
Compound wound motor	مرکب لپیٹ موٹر
Compressed	پچکی ہوئی
Compression	داب ۔ پچکاؤ
Compressible	داب پذیر ۔ پچکیلا
Compressibility	داب پذیری ۔ پچکائی
Compression of Star	تسطیح ستارہ
Compressive stress	پچکاؤ زور
Compressometer	داب پیما ۔ پچک پیما ۔
Compressor	داب گر ۔ داب آلہ
Computed area	تخمینی رقبہ
	تخمین شدہ رقبہ ۔ محسوب رقبہ
Concave	جوف ۔ مقعر
Concave boundry	مقعر محیط
Concave, Double	مقعر الطرفین
Concave, mirror	مقعر آئینہ
Concavity	گہراؤ ۔ قعر ۔ تقعر
Concentrated (solution etc.)	مرتکز (محلول وغیرہ)

Complementary angle	متمم زاویہ
Complementary colour	تکمیلی رنگ
Complementary Combination	متمم اجتماع
Complementary function	متمم تفاعل
Complete	پورا - کامل - مکمل
Complete differential	کامل تفرقہ
Complete Integral	کامل تکملہ
Complete Primitive	کامل ابتدائی
Complete quotient	مکمل خارج قسمت
Complete rotation	گردش کامل
Complete solution	مکمل یہ پورا حل
Complex	مرکب - ملتف
Complex fraction	کسر مرکب
Complex Numbers	ملتف اعداد
Complex variable	ملتف متغیر
Complicated Mechanism	پیچیدہ عمل
Compole	دو قطب (درمیانہ قطب)
Componendo (Ratio)	ترکیب (نسبت)
Component (s)	جزو ترکیبی (اجزاء ترکیبی)
Component, velocity etc.	رفتار ترکیبی
Composite	مرکب
Composite Number	عدد مرکب
Composition (of velocities)	ترکیب (رفتاروں کی)

Common suction pump	عام پمپ - چوس پمپ
Commutation	تقلیب
Commutation, Angle of	زاویہ رباط اعظم - زاویۂ تقلیب
Commutator	مقلب - توڑ جوڑ
Commutative	تبدیل پذیر
Commutative law	قانون تبدیل - قانون مبادلہ
Commutative operation	باہم بدل سکنے والا عمل - تقلیبی عمل
Commutative Property	خاصیت مبادلہ
Compact	منضبط
Compact form	منضبط شکل
Comparator	تقابل گر مقابلہ گر
Comparison	مقابلہ - تقابل
Compass	کمپاس قطب - نما
Compass box	کمپاس بکس
Compass needle	کمپاس سوئی
Compensating chord or ribbon	متلاف ڈوری یا فیتہ
Compensating leads	متلاف یا تاوانی رہنما تار
Compensated	تلافی یافتہ
Compensator	تلافی گر
Complement	تکملہ - متمم

Combustion	احتراق
Combustion Engine	احتراق انجن
Comes (Pl. cometus)	احفی المصمفین
Comet	دم دار ستاره
Comet, Fnvelope of a	لفافۂ تارہ
Comet, Long-Period	طویل‌المدت دمدار تاره
	طویل المدت دم درا تاره
Comet, Periodical	دوری٭ دمدار تاره
Comet, Short-Period	قیصرالمدت دمدار تاره
Cometography	دمساله دار احتر نگاری
Commensurable	متوافق
Commensurable Numbers	متوافق اعداد
Commensurable Root	متوافق اصل
Commensurability	اتفاق
Commercial Zinc	تجارتی جست
Common difference	فرق مشترک
Common distance	مشترک فاصله
Common logarithm	مروج یا عشری لوگارتم -
	عام لوگارتم - مروج حوار رم
Common Pump	عام پمپ
Common ratio	نسبت مشترک
Common surface	سطح مشترک

Collision	ٹکر - تصادم
Colloid	لسوت
Colloids	لسوتے
Colloidal gold	لسوتی سونا
Colorimetry	رنگ پیمائی
Colour	رنگ
Colour blind	رنگ اوندھا - رنگندھا
Clour blindness	رنگ اوندھی
Columba	حمامہ
Columba Naochi-a columba (Or Phaet)	حمامتہ النوح - نیرا الحمامہ
Column	کالم - ستون
Columnar	هم قاشی
Colure (Equinoctical)	دائرہ (مارہ بہ استوا)
Colure (solstitial)	دائرہ (مارہ بہ اعتدالیں)
Coma Berinices (Berinices Hair)	شعربرمینس - زلف لیلی
Combination	اجتماع
Combination of Lenses	مجموعہ عدسوں کا
Combinational (tone)	اجتماعی (سوتی)
Combination Tones	اجماعی سوتیاں
Combination Velocities	رفتاروں کی ترکیب

Cofactor	هم جزو ضربی
Cogwheel	دندانه پہیه
Coherence	پیوستگی
Coherent	پیوسته
Coherer	پیوست گر
Cohesion	اتصال
Coil	لچھا
Coil, induction	لچھا امالی
Coincidence	انطباق
Coincident	منطبق
Co-latitude	عرض التمام
Cold cathode discharge	سرد مہبطی اخراج
Collateral	هم جانب - مجانب
Collecting combs	جامع کنگھے - پٹوار کنگھے
Collection	مجموعه
Collector	جامع - پٹوار
Collide	ٹکرانا
Collimator	توازی گر
Collimation	توازی گری
Collimating Telescope	توازی گر دور بین
Collinear	هم خط
Collinearity	هم خطی - هم خطگی - هم خطیت

Clock, Sidereal (star)	ساعت نجومی ۔ کوکبی گھڑی
— rate	گھڑی کی شرح رفتار ۔ ساعتی شرح
— stars	گھڑی تارے ۔ ساعتی ستارے
Clock-wise	گھڑی وار ۔ ساعت وار
Clock-work	گھڑی کل
Closed (pipe)	یک طرفہ ۔ بند (نل)
Closed circuit	بند دور
Closed curves	بند منحنیات
Closed spiral	بند مرغولہ
Cloud	بادل
Cluster of stars	خوشۂ نجوم ۔ جھمک (تاروں کا)
Clutch (Electromagnetic)	پنجہ (برقناطیسی)
Clypeum vel Sentusm (or	جنت الملک (یا
Super sobieski)	سپرسوبس کی)
Coal-gas	کوئلہ گیس
Coarse	موٹا ۔ دبیز ۔ کھردرا
Co-axial	ہم محور ہم محوری
Co-axial hole	ہم محور سوراخ
Code (Morse)	ضابطہ (مورس)
Co-efficient	شرح ۔ قدر ۔ سر
Coercive force	جبری قوت
Coercivity	جبریت

Circumscribed Polygon	حایط کثیرالا ضلاع
Cirro-cumulus	گھونگھر دل بادل
Cirrus (cloud)	گھونگرالے (بادل)
Cissoid	لبلابی
Cistern Barometer	حوض دار بار پیما
Civil day	یوم قانونی
— month	(ماہ) شہر قانونی
— year	سنہ (یا سال) قانونی
Clairaut's form	کلیروی صورت
Clamp	شکنجہ - چمٹا - آلات رصدیہ کا پیچ کس
Clamped	کسا ہوا - جکڑا ہوا
Clang (sound)	جھنجھناہٹ (آواز کی)
Classical	مستند، قدیم
Classification	جماعت بندی
Cleavage	شگاف - ترکیدگی
Climate	آب و ہوا
Climax	منتہیٰ
Clinical thermometer	طبی تپش پیما
Clip	چٹکی
Clock	گھنٹہ، گھڑی - ساعت
— , Astronomical	ساعت فلکیہ
— , Mean Solar	اوسط شمسی ساعت

Circuit	دور ـ دوره ـ حلقہ
Circulant (s)	مستدیرہ (مستدیرات)
Circular	دائری - مستدیر
— cone	مخروط مستدیر
— current	مدور رو
— error	دائری خطا
— function	دائری تفاعل - تعامل مستدیر
— measure	دائری ناپ ـ قوسی پیمانہ
— plane	دائری مستوی ـ مدور مستوی
— permutations	مدور ترتیبیں
— points	دائری نقطے
— scale	مدور پیمانہ
Circulation	دوراں
— of Water	دوران آب
Circum	بیرونی ـ حائیطہ
Circumcircle	بیرونی دائرہ ـ دائرۂ حایطہ
Circumcentre	حایطہ مرکز ـ بیرونی دائرہ کا مرکز
Circumference	محیط
— , Equatorial	محیط استوائی
— , Polar	محیط قطبی
Circumpolar stars	کواکب قطبیہ
Circumscribe	احاطہ کرنا
Circumscribed circle	حائیط دائرہ ـ بیرونی دائرہ

— , Horizon	دائرۂ افقی
— , Primary	دائرۂ اولیٰ
— , Secondary	دائرۂ ثانوی
— , Small	چھوٹا دائرہ
— , Transit	دائرۂ عبور
— , Vertical	دائرۂ انتصابی
— of Altitude	ارتفاع کا دائرہ
— — Azimuth	دائرہ سمتیہ
— — celestial sphere	دائرہ فلکی کرہ
— — convergence	دائرہ تقارب
— — curvature	دائرۂ انحنا
— — Latitude	دائرۂ عرض
— — least confusion	کمترین خلل کا دائرہ
— — — similitude	کمترین مشابہت کا دائرہ
— — light (or illumination)	دائرۂ نور
— — longitude	دائرۂ طول
— — position	دائرۂ الوضع
— — perpetual apparition	دائرۂ ظہور دائم
— — — disappearance	دائرۂ اختفائے دائم
— — — occultation	دائرۂ احتجاب دائم

Chemosphere	لون کرہ
Chimes (electric)	سریلی گھنٹیاں (برق)
Chlorophyll	کلورو فل ۔ سبز مایہ
Choke	(۱) گھونٹی (۲) حبس
Choking coil	گھونٹ لچھا ۔ حبس لچھا
Chord (circle)	وتر (دائرہ)
Chromatic	رنگی ۔ لونی
— abberation	لونی انحراف (یا ضلالت)
Chromatism	رنگت ، لونیت
Chromogen	رنگ زا
Chromophore	رنگ بر
Chromosphere	رنگ کرہ
Chronograph	وقت نگار
Chronometer	وقت پیما
Chronoscope	وقت نما
Churn	بلونی
Churn, to	بلونا
Cinema (cinematography)	سنیما (متحرک عکاسی)
Circinus (compass)	قطب نما ۔ پرکار
Circle	دائرہ
— , Diurnal	یومیہ دائرہ
— , Great	بڑا دائرہ عظیم دائرہ ۔

Chaph	ید الثریا
Character	(۱) کردار (۲) خصوصیت
Characteristic	(۱) ممیز - خصوصی
	(۲) خصوصیت خاصہ
Characteristics	خصوصیات
Characterisation factor	تخصیصی شرح (روغنیات)
Charactron	مغیری شعاعی نلی
Charge	بار
Charge, to	بھرنا - بارنا
Charge conjugation	باری تصریف (ابدالی)
— density	باری کثافت
— invariance	باری ثبات
— stroke	باری ضرب
Charged	باردار
Charging	بھرنا
Charle's Wain	دب اکبر
Chart of stars	نقشۂ نجوم
Chassis	ڈھانچہ
Chelial (Perseus)	فرساؤس - راس الغول
Chemah (Taurus)	ثور
Chemiluminescence	کیمیائی نورانیت
Chemisorption	کمیائی جذب (جذب کی قسم)

Century	صدی
Cephei (or Alderamin)	قیماوس ـ منکب القیماوس ذراع الیمین
— (or Alphirk)	کوکب الفرق
— (or Errai)	ح ـ قیماؤس
Cepheus (the Monark)	قیفاؤس ـ (ملک)
Cerberus (Three-headed Dog)	قربیروس ـ سگ سہ سر
Ceres	سیرس
Ceti (or Batan Kaitos)	بطن قیطس
— (or Deneb alshamali)	ذنب القیطس شمالی
— — — algenube	ذنب القیطس جنوبی
— (or Difda or Deneb Kaitos)	ضفدع
— (or Menkar)	منقار القیطس
— (or Mira)	عجوبہ ـ عجیب
Cetus (Whale)	قیطس
C. G. S. System	س ـ گ ـ س ـ نظام
Chain	زنجیر
Chameleon	حربا
Chance	اتفاق
Changes of moon	چاند کے تغیرات ـ تغیرات قمر

Central Sun	مرکزی سورج
Centre	مرکز
— , Perspective	مرکز تناظر
— , Pressure	دباؤ مرکز
— , Similitude	مرکز شباہت
— , Suspension	مرکز تعلیق
— of buoyancy	اچھال مرکز
— — Curvature	مرکز انحنا
— — Ellipse	مرکز بیضی
— — Figure	مرکز شکل
— — Gravity	مرکز جاذبہ
— — Oscillation	جھول مرکز ـ اہتزاز مرکز
— — Percussion	زد مرکز
Centrifugal	مرکز گریز
— force	مرکز گریز قوت ـ بر مرکز قوت
Centrifugalization	مرکز گریزی ـ بر مرکزی
Centrifuge	بر مرکزہ ـ مرکز گریزہ
Centring	مرکزانا ـ
— error	مرکزانے کی خطا ـ
Centripetal force	در مرکز قوت ـ مرکز مائل قوت
Centrode	مرکزیرہ
Centroid	مرکز ہندسی ـ مرکز سا

Cell (Electric)	خانہ (برق)
— , Primary	خانۂ اولی
— , Secondary	ثانوی خانہ
— , Reversible	رجعت پذیر خانہ
Cells, Standard	معیاری خانے
— in Parallel	متوازی خانے
— in Series	ہم سلسلہ خانے
Cellulose	سلو لوز
Cent	سو ۔ سواں
Centauri	رجل القنطورس
Centaurus (The Centaur)	قنطورس
Centesimal	سواں درجہ وار ۔ صدم
— measure	مرکزی پیمانہ
Centigrade	سنٹی گریڈ ۔ مئی
Centigram	سنٹی گرام
Centimeter	سنٹی میٹر
Centipoise	سنٹی پوائز (لزوجیت کی اکائی)
Centrad	سنٹراڈ
Central Angle	مرکزی زاویہ
— Body	مرکزی جسم
— Conics	مرکزدار مخروطیے
— Force	مرکزی قوت
— reading (vernier)	درمیانی درجۂ شمار (کسر پیما)

Caustic Potash	کاوی پوٹاش
Caustic Soda	کاوی سوڈا
Caustic Surface	آتشی سطح ۔ کاوی سطح
Cauterization	داغنا
Cavitation	جوف ساری ۔ تجویف
Cavity	جوف
Cavity Resonator	جوفی گمکیا
Cebalrai (or Ophiuchi)	کلب الراعی
Celestial	سماوی ۔ فلکی
— Concave	سماوی مقعر
— Distance	سماوی فاصلہ
— Equator	سماوی استوا
— Fire	نارسماوی ۔ آتش سماوی
— Globe	سماوی گولہ ۔ کرۂ سماوی
— Horizon	افق سماوی
— Latitude	عرض بلد سماوی
— Light	نور سماوی
— Longitude	طول بلد سماوی
— meridian	نصف النہار سماوی
— Orb	جرم فلکی (یا آسمانی)
— Pole	قطب سماوی
— sphere	کرۂ سماوی
Cell (Biology)	خلیہ (حیاتیت)

Cathode dark space	مفیری تاریک خلا
— disintegration	معیری تکسر
— fall	منفیری زوال (قوت)
— flicker effect	مفیری ٹمٹماھٹ کا اثر
— Follower	معیری مقتدی
— Glov	معیری دمک
— Rays	منفیری شعاعیں
— Sheath	منفیری نیام
— Tube	مفیری (منفی) نلی
— Sputtering (Electrolysis)	دری پاشیدگی
Cathodeoluminescence	معیری نورانیت
Cathodophosphorescence	معیری فسفریت
Catholyte	معسری محلول
Cation	مثبت رواں
Cationic Current	مثبت روانی رو
Catoptric	عکسیاتی
Catoptrics	عکسیات - علم مرایا
Causality	علیت
Cause	علت - سبب
Caustic	کاوی - آتشی
Caustic Alkali	کاوی قلی
Caustic (Curve)	آتشی (خم) - کاوی (منحنی)

Cascade	سلسلہ ۔ سلسلہ وار ۔ دوچھاڑ
— shower	سلسلہ وار دوچھاڑ
Casing, Wood	چوبی پوشش
Casette	ڈبیہ
Cassegrainian Telescope	کاسی گرائی دور بین
Cassine	کیسس
Cassiopeia	ذات الکرسی
Cassiopeia or Caph	کف الثریا ۔ سنام الناقہ
Cassiopeia or Schedar	صدرالکرسی ۔ یدالثریا
Cast Iron	ڈھلوان لوہا ۔ ڈھلا لوہا
Castor a Geminorum	مقدم توامس
Cat	سور ۔ گربہ ۔ بلی
Catalogue	زیچ
Catacaustic	انعکاسی کاوی
Catadioptric	عکس انعطافی
Cataphoresis	(Electrophoresis دیکھئے)
Catelectrode (Cathode)	منفیرہ
Catenary	زنجیرہ ۔ لیرہ
Catenoid	زنجیرہ نما ۔ زنجیر نما
Catgut	تانت
Cathamplifier	مقاومتی افزوں گر
Cathetometer	ولندی پیما
Cathode	منفیرہ ۔ منفی برقیرہ ۔ زیر برقیرہ

Carbon strip	کاربن کی دھجی
Carburetter	ہوا میز - کاربوریٹر
Carcel unit	کارسل اکائی
Cardinal	اساسی - عظیمہ
— of Ecliptic	نقاط طریق الشمس (یعنی اعتدالین)
— points of horizon	نقاط عظیمہ' افق
— points in the heaven	نقاط عظیمہ' فلک (سمت الراس)
— signs	بروج عظیمہ (یعنی حمل؛ میزان، سرطان، جدی)
Cardioid	قلبسا (قلب + سا)
— Condenser	قلبسا مکثف
Carnot cycle	کارنو کا دور
Carina (The Keel)	جیر راند
Carriage	گاڑی - پھسلنی
Carrier	برندہ - حامل
Carrier amplitude regulation	حامل حیطہ کا نظم
— colour signal	حامل لونی اشارہ
— current	حامل رو
Carrier wave	حامل موج - برندہ موج
Cartesian	کارتیسی
— Coordinate	کارتیسی محدد
— diver	کارتیسی غوطہ زن (غوطہ خور)

Capillary attraction	کشش شعری
— correction	شعری تصحیح
— elevation	شعری ارتفاع
— tube	شعری نلی
Capricorn (the Goat)	جدی
1. α Capricorni (Secunda Geidi)	قرآن الجدی المتاخر
2. — (Deneb algedi)	ذنب الجدی
3. — (— —)	قرآن الجدی الایسر - دابح حیوانی
4. — (— —)	سعد دابح
Capstan	لنگرچرخ
Capsule	کٹوری - کیسول
Captive Balloon	بندھا غبارہ
Capture	اسیری
Capture Effect	اسیری اثر
Caput Medusa	راس الغول
Car	دب اکبر (کا قدیم نام)
Carat	قیراط
Carbon	کاربن
Carbon Steel	کاربن دار فولاد

Canonical Equations	آنیی مساواتیں
— Form	صورت آنسی
Canopus (or α Argus) سہیل یمانی	سہیل (الف سفینہ)
Cantilever	درآمدہ دھرم
Capacitance	موثر گنجائش
Capacitance Altimeter	موثر گنجائشی ارتفاع پیما
— , Coefficient of	موثر گنجائش کی شرح یا سر
— , Distributed	تقسیم شدہ موثر گنجائش
— , Effective	نافذ موثر گنجائش
Capacitance, Stray	اتفاقی موثر گنجائش
Capacitive	گنجائشی
Capacitor	مکثفہ
Capacity	گنجائش ۔ قابلیت
Capacity factor	گنجائش جزو
Capacity, Specific Inductive	نوعی امالی گنجائش
Capacity, Thermal	استعداد حرارت گنجائش حرارت
Capella	عیوق (قرن الثور ۔ رقیب ثریا)
Caph	کف
Capillarity	شعری - جذب شعری ۔ شعریت
Capillary action	شعری عمل

Camera, Pinhole	سوئی چھید کیمرہ ـ ثقبالہ
Camera shutter	کیمرے کا مدکہ
Camouflage	تلبیس ـ چھپانا
Camphor	کافور
Can	ڈبہ
Canal Rays	نہری شعاعیں
Cancer (The Crab)	سرطان
Candela	قندیلہ (اکائی)
Candle	موم بتی
Candle, Foot	فٹ بتی
Candle, International	بین الاقوامی بتی
Candle Meter	بتی پیما
Candle Power	بتی طاقت
Candle Power, (Mean)	بتی طاقت (اوسط)
Canis or Adara	عدرا (الف کلب اکبر)
— Major (is)	کلب اکبر
— Minor (is) (Gomeisa)	کلب اصغر
— Mirzam	مرزم یمانی (ب کلب اکبر)
— (or procyon)	غمیصا ـ شعریٰ شامی
Canis Ventici	کلب راعی ـ
(the Hunting Dogs)	کلاب الصید
Canonical	آئینی

Calms of Capricorn	سکون جدی
Calorescence	حر نورایت
Caloric	کیلارک - حراری
Caloric Theory	کیلارک نظریہ
Caloric, (Calory)	حرارہ
Calorie, Small	حرارہ صغیر - چھوٹا حرارہ
Calorifer	حرارہ بردار
Calorific intensity	حراری شدت
Calorific value (of fuels)	حراری قیمت (ایندھنوں کی)
Calorimeter	حرارہ پیما
Calorimeter, Differential	تفرقی حرارہ پیما
Calorimetric co-efficient	شرح حرارہ پیمائی
Calorimetry	حرارہ پیمائی
Calotype	کیلو ٹائپ
Cam	کیم
Cam shaft	کیم ڈنڈا - کیم سلاخ
Camber	کنار آبھار
Camera	کیمرہ
Camera Lucida	روشن کیمرہ
Camera Obscura	تاریک کیمرہ
Camera Panorama	منظری کیمرہ - سیر بینی کیمرہ
Camera, Photographic	فوٹو کیمرہ

Calculagraph (Telegraphs)	حساب نگار
Calculating Machine	حسابی مشین
Calculation	تحسب
Calculator, Network	مشبک حساب کار
Calculus	احصا'
— , Differential	احصا' تفرق
— , Integral	احصا' تکملی
— of Variations	احصائے تغیرات
Calcum (caela) Scalptoris	آله' نقاش یا کنده کار
Calender	تقویم - جنتری
Calender, Gregorian	تقویم گریگوری
Calender, Julian	تقویم قیصری
Calender month	شہر (ماہ) تقویمی
Calender year	سال تقویمی
Calibrate	پیمانه بندی کرنا
Calibrated	پیمانه بند
Calibration	پیمانه بندی
Calibration Curve	تعییری منحنی
Calibre	اندرونی قطر
Calipers (Callipers)	سرل چاپ
Calms	سکون
Calms of Cancer	سکون سرطان

C

C (Music)	سا (موسیقی)
C (Capacitance)	گ (مؤثر گنجائش)
C or c (concentration of solution)	ا (محلول کا ارتکاز)
C (Element Carbon)	C (کاربن کی علامت)
C (Velocity of light in vacuum)	ر (خلا میں رفتار نور)
°C (Degree centigrade)	°س (درجہ سنٹی گریڈ)
C (Heat capacity)	گ (گنجائش حرارت)
Cm (Heat capacity per mole)	گ س (گنجائش حرارت فی سلم)
Cv (Specific heat at constant volume)	ن ح (حرارت نوعی مستقل حجم پر)
Cp (Specific heat at constant pressure)	ن د (حرارت نوعی مستقل دباؤ پر)
Cb (Coulomb)	ک (کولومب)
Cable	(برقی) طناب ۔ حبل
Cable Gram	بحری تار
Cage Antenna	قفسی محسہ

Bunsen burner	بسنی مشعل
— — flame	بسنی شعلہ
— — Cell	بسنی خانہ
Buoy	(۱) تیرنا (۲) پیراکو
Buoyancy	اچھال ۔ تیرانے والی قوت ۔ تیراؤ
Buoyant force	اچھال کی قوت
Burette	طرفک
Burglar Alarm	چور گھنٹی
Burmah Press	برمائی شکنجہ
Burner	مشعل
Burst	پھٹنا
Busbars	سلاخ ۔ تہہ سلاخ
Butterfly net (Circuit)	تیتری جال
Button	بٹن
Buzzer	(۱) بھنبھنا ۔ (۲) بزر
Bypass Capacitor	ضمنی گذر مکثفہ
— Condenser	ضمنی گذر مکثفہ

Bronze	کانسہ
Brownian Movement	براؤنی حرکت
Brush	برش
Brush contact resistance	برش ملاپ مزاحمت
— discharge	برش نما اخراج
— Shift	برش تبدل
— rocker	برش جھولا
Bubble	بلبلہ
— chamber	بلبلہ خانہ
Bucket	ڈولچی ۔ بالٹی
Bucking coil	ازالہ گر لچھا
Buffer	بفر
— amplifier	بفر فروں گر
— solution	بفر محلول
— stage	بفر مرحلہ
— stop	روک حائلہ ۔ بفر حائلہ
Building Acoustics	عمارتی صوتیات
Bulb	بصلہ
Bulk	حجم
Bulk Modulus	حجمی معیار
Bull (See Taurus)	ثور
Bull's Horn	قرن الثور
Bundle (of rays)	دستہ (شعاعوں کا)

— meter	میٹر پل
— method	پل طریقہ - حسری طریقہ - صراطی طریقہ
— (Sonometer)	گھوڑی (صوت پیما)
— Transition	حسری عبور - پل عبور
Bridging	پاٹنا
Bright	منور - منیر
Bright Line	منور حط - منیر حط
— Spectra	روشن حط طیف
Brightness	درخشانی - چمک
— Intrinsic	ذاتی درخشانی
Brilliance	درخشندگی
Brilliancy	نوریت - ضیاء
Brilliant	درخشاں - روشن
Bristle	سور بال - سخت بال
British-Thermal-Unit	برطانوی حراری اکائی ب - ح - ا
Brittleness	پھونک پن - بھربھرا پن
Broadcaster	ناشر
Broadcasting	نشر
Broadcasting Station	نشرگاہ
Broadside on (Position)	آڑی وضع
Broken (Graph)	شکستہ (ترسیم)

Bracket	طاقچہ
Brake Band	بریک پٹی
Brake H. P.	بریک اسپی طاقت
Brake Friction	رگڑ بریک
Branch	شاخ
— Series	شاخ سلسلہ
Brass	پیتل
Brazen Meridian	نصف النہار نحاسی
Breadth	عرض - چوڑائی
Break Contact	تماس توڑنا - قطع کرنا
Breaker Circuit	دور شکن
Breaker Contact	تماس شکن
Breakdown	ٹوٹنا - منقطع ہونا
Breaking Point	نقطہ شکست - ٹوٹ نقطہ
Breeding	افزائش
Bredig Arc	بریڈگ قوس
Breeding Pile	افزائشی ڈھیر (تودہ)
Breeding Ratio	افزائشی نسبت
Breeder Reactor	افزائشی تعامل گر
Breeze	نسیم
Breeze, Land	نسیم بری
Breez, Sea	نسیم بحری
Bridge	پل

Boson	"بوسن"
Bottoming	زیر اندازی
Bound	حد
— Energy	مقید توانائی
Boundary circle	سرحدی دائره
— Conditions	سرحدی حالات - سرحدی شرائط
— Layer	سرحدی تہہ
- - Partition	سرحدی تقسیم
Bound Charge	مقید دار
Bounded	محدود
Bounding line	سرحد - سرحدی خطوط
Boundary Value	حد قیمت
Boundary Value Problem	حد قیمتی مسئلہ
Bow	گز - کمان
Bow	مستک جہاز کا
Bow Waves	مستکی لہریں
Bowed string	گز زدہ تار
Bowing pressure	گز کا دباؤ
Bowl	کاسہ
Box Sextant	سدس - مزولہ صندوق - صندوق سدس
Box of Weights	باٹوں کا صندوقچہ
Box Wood	باکسی لکڑی
Brake	بریک

Bohr Frequency Condition	بہور تعددی شرط
Boil	ابال ۔ جوش (کھولاو)
Boiler	جوش دان
Boiling mixture	جوشامیزہ (جوش آمیزہ)
— **Point**	نقطۂ جوش ۔ کھولاؤ کا نقطہ
Bolide (Fire-Ball)	کرۂ نار
Bolometer	شعاعی حرارت پیما حرپیما
Bomb	بم
Bombardment (Molecular)	بمباری (سالمی)
Bomb Calorimeter	بم حرارہ پیما
Bond	بند
Bonding Orbital	بندشی مداریہ
Bone Conduction	استخوانی ایصال
Boost	تقویت
Booster (Dynamo)	بس گر (ڈائنمو)
Boote's (Herdsman)	عوا
— **Arcturus** (γ bootes)	سماک رامح ۔ حارس السماء ۔ (الف عوا)
— **Izar** (ε bootes)	ازار (صہ عوا)
— **Muphrid** (η bootes)	مفرد الرامح (یہ عوا)
— **Nekkar** (β bootes)	نقارالعوا (بہ عوا)
Bore (of a tube)	دروں قطر (نلی کا)
Borda's Principle of Repetition	بورڈا کا اصول تکرار

Bloom (Photography)	پھلیا (عکسی تختی کو دھوتے وقت جو تہہ جم جاتی ہے)
Blooming (Cathode ray tubes)	پھلکاری
Blow	ضرب ۔ دھکا ۔ چوٹ
Blower, Glass	شش پھکنا
Blowing, Glass	شیشہ پھونکنا
Blowpipe	پھکنی ۔ دھونکنی
Blue	اسمانی ۔ نیلا
Blue glow	اسمانی دمک
Blue vitriol	توتیا ۔ نیلا تھوتھا
Blue Peacock	طاؤس اسمانی
Blute	دھندھلاپن ۔ ابہام
Blur circle	ابہامی (لاما سکیت کا دائرہ)
Bob	لنگر
Bob (Pendulum)	گولہ (لنگر ۔ پنڈولم)
Bobin	پھرک
Bode's Law	بوڈ کا قانون یا کلیہ بوڈ
Body	جسم
Body Capacitance	جسمی موثر گنجائش
Body-centered Structure	جسمرکزی (جسم مرکزی) ساخت
Body Centrode	جسم مرکزیرہ
Body Cone	جسم مخروط

Bissextile	سنہ کبیسہ ۔ لوند کا سال
Bistable	مکرر قائم ۔ مکرر قیام پذیر
Black Body	سیاہ جسم ۔ تار جسم
Black Body Radiation	سیاہ جسم کا اشعاع ۔ تار جسمی اشعاع
Black Compression	تار داب ۔ سیاہ داب
"Black-out" Effect	حجابی اثر
Blackpeak	تار چوٹی ۔ سیاہ چوٹی
Blackout Point	حجابی نقطہ
Black Spot	نقطۂ اسود ۔ خال سیاہ ۔ تار داغ
Blade (of Knife etc.)	پھل (چاقو وغیرہ کا)
Bladder	پھکنا
Blasting (Fuse)	بھک (فتیلہ) بارود اڑانے کا گدازہ
Blaze	شعلہ ۔ تابش
Blazed grating	تاب جالی ۔ روشن جالی
Bleaching	رنگ کشائی
Blindnes, Colour	رنگودھی
Blind Spot	اندھا نقطہ
Block	کندہ
Block (of a pulley)	بلاک (چرخی کا)
Block multiplication	گروہی ضرب ۔ بلاک ضرب
Blocked impedance	ناگذار مقاومت
Blocking Condenser	ناگذار مکثفہ

Binocular Vision	دو چشمی رویت
Binoculars	دو چشمی دوربین ـ دو چشمے
Binomial	دو رحی ـ ثنائی
— Theorem	مسئلۂ ثنائی
— Co-efficient	ثنائی سر
Binormal	ثانوی عماد
Biological Shield	حیاتیاتی سپر
Bioluminescence	حے نورانیت ـ حیاتی نورانیت
Biophysics	حے طبیعیات ـ حیاتی طبیعیات
Bipolar	دو قطبی
Bipolar Co-ordinate	دو قطبی محدد
Biprism	دھرا مشور
Biquadratic	چہار درجی
— equation	مساوات درجۂ چہارم
Biquartz	دھرا گار
Birational Transformation	دو ناطقہ استحالہ
Birectangular	دو قائمی ـ دو مستطیلی
Birefringence	دھرا انعطاف
Bisection	تنصیف
Bisector	خط تنصیف ـ ناصف
Bisector (External)	ناصف (خارجی)
— (Internal)	ناصف (داخلی)

Bi-directional Pulse	دو سمتی نبض
Bielid swarm	مسلسلیہ
Bifacial (surfaces)	دو رخی (سطحیں)
Bifilar Electrometer	دوخیطی برق‌پیما
— (Suspension)	دو ریشہ (تعلیق)
Bilateral	دو رخہ - دو چہرہ دار - دو جانبی
Bilinear	دو خطی
— Form	دو خطی شکل
— Transformation	دو رخی بدل (استحالہ)
Bilinearity	دو رخیت - دو خطیت
Bimorph cell	دو شکلہ خلیہ دو شکلہ خانہ -
Binary	دو گانہ - ثنائی
Binary-coded Decimal System	دو گانہ‌ضابطۃ اعشاری نظام
Binary Stars	ثنائی ستارے - دھرے ستارے
— operation	ثنائی عمل
— system	ثنائی نظام
Binaural	دو گوشی
— intensity effect	دو گوشی شدت اثر
— location	دو گوشی محل
Binding Energy	بندشی توانائی
— Fraction	بندشی کسر

Belt (Pulley)	پٹہ (چرخی)
Belt (Girdle) of Orion	منطقہ (یا نطاق) جوزا
Bench (Optical)	تختہ (مناظری)
Bending	خمیدگی - جھکاو
Bending of Lens	عدسہ کا جھکاو
— moments	جھکاو کا معیار اثر
Benetnasch (Ursa Majoris)	بنات النعش (یادب اکبر)
Berton's Dynamometer	مبصار برتھن
Bessel's Day Number	بیسل کے اعداد یومیہ
Bessel Functions	بیسل کے تفاعلات
Bestiary	منطقة البروج (قدیم نام)
Betelgeuse (— geuze)	ابط الجوزا
Betatron	بیٹا ٹرون
Bevatron	بی واٹرون
Bi-axial (crystals)	دو محوری (قلم)
Bi-characteristic	دو ممیزہ
Bi-conical	دو مخروطی
Bi-concave	دو جوف - مجوف الطرفین
Bi-convex	دوحدبی - محدب الطرفین
Bi-cursal (equation curves)	دوطرزی (مساواتی منحنی)
Bi-directional microphone	دو سمتی مائیکروفون

Beam Tetrode	شعاع چہار برقیرہ (چوقیرہ)
— Valve	شعاع صمام
Bear	دب ۔ خرس
Bearing (of Compass)	رخ (کمپاس کے)
Bearing	ٹیکہ
— , Roller	بیلن ٹیکہ
Beat (s)	ضرب (ضربات)
Beat frequency	ضربی تعدد
Beat note	ضربی سر
Beat-frequency Oscillator	ضربی تعدد جھولیا
Beat Reception	ضربی وصول
Beating Rect	ضرب پتی (دھڑکنے والی پتی)
Beginning of Aries	نقطۂ اول حمل
— — Cancer	نقطۂ اول سرطان
— — Capricorn	نقطۂ اول جدی
— — Libra	نقطۂ اول میزان
Beid (or Eridani)	(بیض کا مخرب) ۔ بیضہ
Bellatrix (or Orionis)	منکب الجوزا ۔ بیلا ٹرکس
Bell	گھنٹی ۔ جرس
Bellows	دھونکنی
Belt	منطقہ
Belt (Driving)	پٹہ (چلاؤ)

Base (Curve)	قاعدہ ۔ اساس (منحنی)
— (Triangle)	قاعدہ (مثلث)
— Magnification	اساس کی تکبیر
Basic	اساسی ۔ بنیادی
Bass	زیریں ارتعاش
Baten Kaitos (Ceti)	بطن القیطس
Bathochrome	زیر لون
Bath, Water	پن جنتر
Battery	مورچہ
Battery gauge	مورچہ ناپ
Baud	باؤڈ (اکائی' ٹیلیگراف یا تار برق کی)
Bazooka	متواں (کی قسم) دیکھئے Balun
Bead	منکا
Bead Hydrometer	منکے دار مائع پیما
Beads (Bailys)	منکے خزرات بیلی
Beaker	بیکر ۔ گلاس ۔ منقارہ
Beam	کڑی ۔ ڈنڈی ۔ شہتیر ۔ شعاع ۔ بل
— (of Balance)	ڈنڈی (ترازو کی)
Beam of light	نور کی شعاع
Beam Bender	شعاع خم کار ۔ کڑی موڑنے والا ۔
— compass	ڈنڈی پرکار ۔ ڈنڈی کمپاس
— system (wireless)	شعاعی نظام (لاسلکی)

Band spread	بند پھیلاؤ
— width	بند عرض ـ بند چوڑائی
Bar	سلاخ
— Magnet	سلاخی مقناطیس
— (unit)	"بار" (اکائی)
Baricentric	بار مرکزی
Barlow lens	بارلو عدسہ
Barn	بارن (اکائی، مرکزائی تراش کی)
Barograph	بار نگار
Barometer	بار پیما
Barometric	بار پیمائی
Baroscope	بار نما
Barostat	بار ناظم ـ بار ضابط
Barotropic fluid	بار اطراقی مایع
Barothermograph	بار تپش نگار
Barrel	پیپا ـ نال
— scale	خولی پیمانہ ـ نال پیمانہ
Barretter	بریٹر ـ تواری نلی
Barye	باری (اکائی)
Basal Plane	قاعدہ مستوی ـ اساسی مستوی
Base	قاعدہ ـ اساس
Base line	بنیادی خط
Base (Logarithm)	اساس (لوگارتھم)

Baffle (Plate)	روکہ (تختی)
Balance	(۱) ترازو (۲) توازن
— Case	ترازو دان
Balancer	توازن گر
Balance point	توازن نقطہ
— wheel	توازن پہیا
Balanced Modulater	متوازن کم بیشہ گر (کمیشگر)
— polyphase load	متوازن کثیر ہیئتی بوجھ
Balancing column	توازنی ستون ۔ توازنی کالم
— speed	توازنی چال
— wire	توازنی تار
Ball bearing	گولیدار ٹیکہ - بال بیرنگ
— lightning	گولا بجلی
— Socket	گولیدار کھانچا ۔ گولیدار سرپیچ
Ballast Resistor	توازنی مزاحم
Ballistic	اندفاعی
— Balance	اندفاعی ترازو
— Galvanometer	اندفاعی رو پیما
— Pendulum	اندفاعی لٹکن (پنڈولم)
Ballistics	(۱) منجنیقیات ۔ (۲) قدیفیات
Balun	متواں
Band	بند ۔ پٹی ۔ دھاری

B

B (Musical note)	نی (موسیقی کا سر)
B (position of Gauss)	ب (گاؤس کی وضع)
β — decay	بیٹا - زوال
β — function	بیٹا - تفاعل
β — Particles	بیٹا - ذرات
β — rays	بیٹا - شعاعیں
Babinet Compensator	بے بینٹ تلافی گر
— Principle	بے بینٹ اصول
Back E. M. F.	رجعی ق-م-ب-، پس ق-م-ب
Back-fire, See ('Arc Back')	
— flashover	پس بھڑک - رجعی بھڑک
— focal length	پس ماسکی طول
— heating	پس گرماؤ
— Lash	پس دھکا
— Scattering	پس انتشار
— Vertex Power	پس راسی طاقت
Backward Reading (Vernier)	الٹی پڑھائی - پس خواندگی (ورنیر)
Bad Conductor	ناقص موصل

—, Principal	اصل محور
— Rotation	محور گردش
—, Secondary	ثانوی محور
Axis of Abscissa ·	محور فصله
— — cone	محور مخروط
— — the celestial sphere	محور کرۂ فلکی
— — the Earth	محور زمین
— — Figure	محور شکل
— — horizan	محور افق
— — Lens	محور عدسہ
— — an Orbit	محور مدار
— — the Ordinates	محور معین
— — Projection	محور تظلیل
— — Rotation, Fixed	قائم محور گردش
— — Suspension	محور تعلیق
— — Symmetry	محور تشا کل
Axle	دھرا
Axonometry	محور پیمائی
Azha (Eridani)	غصہ
Azimech (Spica or Virgins)	السماک
Azimuth	سموت ۔ السمت
— Angle	السمتی زاویہ
Azimuthal Quantum Number	سموتی کوانٹم عدد

— , Method of	اوسط کا طریقہ
— Pulse Amplitude	اوسط نبض حیطہ
— Rate	اوسط شرح
— Speech Power	اوسط قوت نطق
— Velocity	اوسط رفتار
Aviation	ہوابازی ۔ طیاری
Aviator	ہوابار ۔ طیار
Avogadro's Number	ایوگیڈرو عدد
Axes	محاور
Axes of Strain	تحریفی محاور
— of Stress	محاور زور
Axial	محوری
— Magnification	محوری تکبیر
— Modulus	محوری معیار
— Plane	محوری مستوی
— Ratio	محوری نسبت
— Vector	محوری سمتیہ
Axiom	متعارفہ ۔ بدیہیہ
Axis Major	محور اکبر
— Minor	محور اصغر
—, Optic	نوری محور
—, Optical	محور مناظری
—, Primary	بنیادی محور ۔ محور اولیٰ

Autoxidator	خود تکسید گر
Autoxidiser	خود مکسد
Autumn	خریف ۔ خزاں
Autumnal Equinox	اعتدال خریفی
Auxiliary	امدادی ۔ معاون
— Circle	معاون دائرہ
— Equation	معاون مساوات
— Function	معاون تفاعل
— Scale	معاون پیمانہ
— Series	معاون سلسلہ
Auxochrome	رنگ افزا
Auxometer (Auxiometer)	افزا پیما
Available	کارآمد ۔ مفید مطلب
— Energy	کارآمد توانائی
— Power	کارآمد طاقت
— — Efficiency	کارآمد طاقتی استعداد
— — Response	کارآمد طاقتی جواب
Avalanche	بہمن
— Effect	بہمنی اثر
Average	اوسط
— Deviation	اوسط انحراف
— Electrode Current	اوسط برقیرہ رو
— Life	اوسط عمر

— Oscillator	خود حرکی جهولیا
— Reception	خود حرکی یابندگی (وصول)
Autoelectric Effect	خود برق اثر
— Emission	خود برق اخراج
Autofunction	خود تفاعل
Autoionization	خود روانا
Autolytic	خود پاشیده
Autolysis	خود پاشیدگی
Automatic	از خود ـ از خود عامل ـ خود کار
— contrast control	خود کار اختلافی ضبط
— control system	خود کار نظام ضبط
— controller	خود کار ضابط
— frequency control	خود کار تعددی ضبط
— volume control	خود کار ضبط حجم
— — contractor	خود کار حجم قابض
— — expander	خود کار حجم باسط
Automorphic function	خود وضعی تفاعل
Autophanous	خود منور
Autoradiograph	خود شعاع نگار
Autorotation	خود گردش
Autosensitisation	خود تحسس ـ خود حساس گری
Autotransformer	خود بدل‌گر
Autoxidation	خود تکسید

— Yield	اوزے یافت
Augmentation	ترايد
— distance	تزایدی فاصلہ
Aural fatigue	سماعی تکان
— harmonic	سماعی هم آهنگی
— line	سماعی خط
— Transmitter	سماعی مرسل
Auricle	گوشک
Auriga (Charioteer)	ممسک العنان
— (Capella)	عیوق ـ ممسک العنان
— (Menkalinan)	منکب ذی عنان
— (Sadatoni)	ذات العنان
Aurora Australis	شفق جنوبی ـ انوار جنوبی
— Borealis	شفق شمالی ـ انوار شمالی
Austral polarity	جنوبی قطبیت
— Signo	بروج جنوبی (جنوبیہ)
Australis, Asad	اسد جنوبی
— , Vel Apis	ذباب (نحلہ) جنوبی
Autocollimating	خود توازی گر
Autocollimation	خود توازی گری
Autocollimator	خود توازی کار
Autodyne Detector	خود حرکی شناس

Attraction	جذب ـ کشش
— , Electrical	برقی کشش
— , Gravitational	جاذبی کشش
— , Magnetic	مقناطیسی کشش
— of Gravity	جاذبہ کی کشش
Attractive Force	قوت جاذبہ ـ قوت کشش
— Property	خاصیت کشش
Audible	سماعت پذیر ـ مسموع
Audibility	سماعت پذیری
— , Limits of	حد سماعت پذیری
— , Minimum	اقل سماعت پذیری
— , Threshold	سماعت پذیری دھلیز
Audio distortion	سماعی مسخ
— frequency	سماعی تعدد
— gram	سماعت نامہ
— meter	سماعت پیما
— phone	سماعت فون ـ سمفون ـ سماعیہ
Audition	سماعت
Auditorium	سماعت گاہ
Auditorium Acoustics	سماعت گاہی صوتیات
Auger Effect	اوژے اثر
— Electron	اوژے برقیہ
— Shower	اوژے بوچھاڑ

— Stopping Power	جوہری روک طاقت
— Structure	جوہری ساخت
— Theory	جوہری نظریہ
— Transmutation	جوہری کایا پلٹ ۔ جوہری قلب ہیئت
— Weight	جوہری وزن
— Volume	جوہری حجم
Atomicity	جوہریت
Atomist	جوہر پرست
Atomization	جوہر سازی
Atomize	جوہرانا
Atomizer	جوہر ساز ۔ جوہر پاش
Attached	ملحق
Attenuate	لطیف بنانا
Attenuation	تلطیف
Attenuation Coefficient	تلطیفی سر
— Constant	تلطیفی مستقل
— Distortion	تلطیفی تخریب
— Equalizer	تلطیفی مساوی گر
— Factor	تلطیفی جزو
— Frequency	تلطیفی تعدد
— Ratio	تلطیفی نسبت
Attenuator (Pad)	تلطیف گر (گدی)

—	, (Hollow) Cylinderical	(کھوکھلا) بیلن نما محسہ
—	, Cubical	مکعبی محسہ
—	, Diamond	الماسی محسہ
—	, Dielectric	بین درقی محسہ
—	, Dipole	بین قطبی محسہ
—	, Directional	سمتی محسہ
—	, Discone	مخروطشتی محسہ
–	, Doublet	ثنائی محسہ
—	, Effect	محسی اثر
—	Effective Height	محسی موثر بلندی
—	, Fanned-Beam	پنکھیہ کرن محسہ
—	, Fishbone	ماہی استخوانی محسہ
—	, Flagpole	پرچم چوب محسہ
—	, Folded Dipole	دوقطبی خمیدہ محسہ
—	, Ground-plane	متوازن محسہ
—	, Ground system of	محسی فرشی نظام
—	, Helical	مرغولی محسہ
—	, Horn-type	قرنی محسہ
—	, Image	تصویری محسہ
—	, Isotropic (Unipole)	ہم اطراف (یک قطبی) محسہ

—	Array	مجسی ترتیب
—	— , Binomial	دورخی مجسی ترتیب
—	— , Broadside	عریضی مجسی ترتیب
—	—, Close Spaced	قریبی مجسی ترتیب
—	—, Continuous linear	مسلسل خطی مجسی ترتیب
—	— , Linear	خطی مجسی ترتیب
—	, Biconical	دو مخروطی مجسہ
—	, Broadband	چوڑی پٹی مجسہ
—	, "Bups"	بپ مجسہ
—	, Cage	قفس مجسہ
—	, Capacitor	موثر گنجائشی مجسہ
—	, Circular	مدور مجسہ
—	, Coaxial	ہم محوری مجسہ
—	, Colinear Coaxial	ہم خطی ہم محوری مجسہ
—	, Colinear or Franklin	ہم خطی یا فرنیکلن مجسہ
—	, Combined V and H	ع اورا مرکب مجسہ (عمودی اور افقی)
—	, Conical	مخروطی مجسہ
—	, (Hollow) Conical	(کھوکھلا) مخروطی مجسہ
—	, Cosecant Squarred	مربع قاطع التمام مجسہ
—	, Counterpoise	متوازن مجسہ

Anodize	مثبرانا
Anolyte	مثبرمایہ
Anomalistic month	ماہ شمس اوجی
— year	سال شمس اوجی
Anomalous	بے قاعدہ ۔ خلاف قاعدہ
— Expansion	بے قاعدہ پھیلاؤ
— Dispersion	بے قاعدہ انتشار
Anomaly	بے قاعدگی
— , eccentric	خارج مرکز بے قاعدگی
— , mean	اوسط بے قاعدگی
— , True	حقیقی بے قاعدگی
Anorthotomic	غیر عمودی
Anotron	انوٹرون
Ansae (Handles)	دستے (حلقات زحل)
Antapex	نقطۂ شرقیہ
Antarctic Circle	دائرۂ قطب جنوبی
Antarctic Pole	قطب جنوبی ۔ انٹارکٹک قطب
Antares	این ٹرس
(Scorpion or Scorpion's heart)	قلب عقرب
Antecedent	مقدم
Antenna (Aerial)	محسہ (ہوائیہ)
— , Achromatic	بے رنگ محسہ
— , Periodic	دوری محسہ

Aniseikon	برقیاتی سیل شناس
Anisodesmic Structure	ناہم بند ساخت
Anisopia	ناہم بینی
Anisotropic	ناہم اطراف
Anistropic Medium	ناہم اطراف واسطہ
Anistropy	ناہم اطراق
Anneal	دھمانا
Annealed	دھمایا ہوا ۔ کمایا ہوا
Annihilation	تعدیم ۔ معدومی
— **Force**	معدومی قوت
— **Radiation**	معدومی اشعاع
Annual Equation	سالانہ مساوات
— **Parallax**	سالانہ اختلاف منظر
Annuity	سالیانہ
Annular	حلقہ نما
Annular Eclipse	حلقہ نما گہن
Annulus	چنبر ۔ حلقہ دائرہ
Anode	مثبت برقیرہ ۔ ریر برقیرہ (مثبیرہ)
— **Current**	مثبیرہ رو
— **Fall**	مثبیرہ باری
— **Rays**	مثبیرہ شعاعیں
— **Sheath**	مثبیرہ پوش
Anodic Condensation	مثبیری تکثیف

— , Visual	زاویۂ رویت ۔ زاویۂ نظری
Angstrome Co-efficient	انگسٹروم سر
— Unit	انگسٹروم اکائی
Angular	زاوی ۔ زاویائی
— acceleration	زاوی اسراع
- deviation	زاوی انحراف
— — Loss	زاوانحراف زیاں
— dispersion	زاوی انتشار
— distance	زاوی فاصلہ
— distribution	زاوی تقسیم
— magnification	زاوی تکبیر
— momentum	زاوی معیار حرکت
— motion	زاوی حرکت
— point	زاوی نقطہ
— velocity	زاوی رفتار
Anharmonic	بے آہنگ ۔ ناہنگ
— Motion	بے آہنگ حرکت ۔ ناہنگ حرکت
— Oscillation	بے آہنگ اہتزاز (جھول) ناہنگ اہتزاز (جھول)
Anharmonicity	بے آہنگی ۔ ناہنگی
Anion	منفی رواں ۔ زیر رواں (منرواں)
Anionic Current	منرواں رو

— of elevation	زاوية ارتفاع
— of emergence	بروزی راویه
Angle, exterior	بیرونی زاویه ـ راویهٔ خارجه
Angle of Incidence	راویهٔ وقوع
— of Inclination	زاویهٔ میلان
— , Interior	اندرونی راویه ـ راویهٔ داخله
— of Lap	آغوشی راویه
— , Oblique	راویهٔ مائل
— , Obtuse	راویهٔ منفرجه ـ کشاده زاویه
— of Plane	راویهٔ مستوی
— of Prism	راویهٔ منشور
— of Principal Azimuth	راویهٔ سمت اصلی
— of Projection	راویهٔ رمی
— of Position	زاویهٔ محل
— of Reflection	راویهٔ انعکاس
— of Refraction	زاویهٔ انعطاف
— of Repose	زاویهٔ سکون
Angle, Right	زاویهٔ قایمه
— of slip	راویهٔ لغزش ـ لغزشی زاویه
— of Solid	زاویهٔ مجسمه
— , Spherical	کروی زاویه
— , Variable	راویه متغیره
— , Vertical	زاویهٔ انتصابی ـ زاویهٔ عمودی

Anemometer	باد پیما
— , Plate	لوحی باد پیما
— , Pressure-Tube	دباؤ نلی باد پیما
Anemoscope	باد بین
"Angels"	"ملائک"
Angle	زاویہ
Angle, Acute	زاویۂ حادہ ۔ تنگ زاویہ
— , Adjacent	زاویۂ متصلہ
— , Alternate	زاویۂ متبادلہ
— of Arrival	ورودی زاویہ
— of Beam	زاویۂ شعاعی
— at the Circumference	زاویۂ محیطی
— of Contact	زاویۂ تماس
— , Curvilinear	منحنی زاویہ ۔ مائل خطی زاویہ
Angle of deviation	زاویۂ انحراف
— of deflection	زاویۂ انصراف
Angle of Departure	خروجی زاویہ
— of depression	ڈھلاں کا زاویہ
—, diffraction	انکساری زاویہ
— of divergence	تباعدی زاویہ
— of dip	زاویۂ میلان
— of eccentricity	خروج المرکز زاویہ

Analogous	مماثل
— Pole	مماثل قطب
Analogy	مماثلت ـ تمثیل
Analyse	تشریح کرنا ـ تجزیہ کرنا
Analyser	تشریح گر ـ تجزیہ کار
Analysing Nicol	تشریح گر نکول
Analysis	تجزیہ ـ تشریح ـ تحلیل
Analytic	تجزیاتی ـ تشریحی ـ تحلیلی
Analytic Continuation	تحلیلی تسلسل
Analytical	تجزیاتی ـ تشریحی ـ تحلیلی
— Geometry	ہندسۂ تحلیلی
— Trignometry	علم مثلث تحلیلی
Anamorphosis	مسخ شکلی
Anaphoresis	زیر برق برداری ـ زیر برقداری
Anatomy	علم تشریح
Anchor	لنگر
Anchor Ring	لنگر چھلا ـ لنگر حلقہ
Anchored Frame	لنگر دار فریم
Andromeda Nebula	سحابیۂ مسلسلہ
Andromedas (or Andromedea)	مرأة المسلسلة
Anechoic Room	ناصدا خانہ
Anelasticity (or Internal Friction)	بے مرونت
Anemograph	بادنگار

Ampere turns	امپیر چکر
Ampholytic	دو رخ پاشیدہ
Amphoteric	دو رخہ
Amphoteric electrolyte	دورخہ برق پاشیدہ
Amphoteric acid	دورخہ ترشہ
Amplification	افزوں گری
Amplifier	افزوں گر
Amplify	افزوں کرنا
Amplitude	حیطہ ۔ سعة
Amplitude or Argument Amp (z)	دلیل یا سعت ، دل (ی)
Amplitude Modulation	سعتی کم بیشی
Amplitude Resonance	سعتی گمک
Amplitude Separation	سعی علیحدگی
Amphora (Aquarius)	کنبھہ ۔ دلو ۔ ساکب الماء
AMU	ج ۔ ک ۔ ا
(Atomic Mass Unit)	(جوہری کمیت اکائی)
Anaclastic	انعطافی
Anaclastics	انعطافیات
Analcite	انلسائٹ
Analogue	مثیل
— Computor	مثیل تخمین کار

Altocumulus	بالادل بادل
Altostratus	بالا تہہ بادل
Aludra	العذرہ
Alwaid	العوائد
Amalgam	املغم ـ ملغم
Amalgamated Zinc	ملغم جست
Amber	کہربا ـ عنبر
Ambiguous	مبہم
Ambiguous case	مبہم صورت ـ مشتبہ صورت
Ambiguous sign	مشتبہ علامت ـ مبہم علامت
Ambiguity	ابہام ـ اشتباہ
Ambiguity of sign	علامت کا اشتباہ
Ametropic	قریب نظری ـ کوتاہ نظری
Amicron	امیکرون
Amicroscopic	ناخورد بینی
Ammeter	ایم پیما
Amorphous	نقلما
Amount	مقدار
Ampere	امپیر
Ampere's Balance	امپیری میزان
Ampere's rule	امپیر کا قاعدہ
Ampere hour	امپیر ساعت
Ampere meter	امپیر پیما

Altazimuth	آلۂ ارتفاع والسمت
Altercontact	متغیر لمس
Alternando	تبدیل نسبت
Alternants	متبادلات
Alternate	بدلنا ۔ متبادل ۔ متبادلہ
Alternate Angle	زاویۂ متبادلہ
Alternating	متبادل ۔ بدلتی
Alternating Current	بدلتی رو
Alternating Current Balancer	بدلتی رو توازن گر
Alternating Current Dynamo	بدلتی رو ڈائنمو
Alternating Dynamo	بدل ڈائنمو
Alternating Gradient Proton Synchrotron	بدل تدرجی پروٹون سنکروٹرون
Alternation	تبدیل
Alternative	متبادل
Alternator	تبدیل گر
Altersection	متغیر تراش
Altimeter	بلندی پیما
Altiscope	بلندی نما
Altitude	بلندی ۔ ارتفاع
Altitude, Apparent	ارتفاع مرئی
Altitude Azimuth Instrument	آلۂ ارتفاع و السمت
Altitude, Observed	ارتفاع مشہودی
Altitude, True	ارتفاع حقیقی

Alnair	النیر
Alnilam (Orionis)	النظام ـ نطم
Alnitak	النطاق
Alpha (a)	عد
Alphabet	ابجد
Alpha Centauri	رجل القنطورس ـ نیر قنطورس
Alpha Counter	عد شمارندہ
Alpha Decay	عد زوال
Alpha Disintegration	عد تکسر
Alpha-gamma cascade	عد ـ جد بوچھاڑ
Alpha particles	عد ذرات
Alpha particles, Delayed	موخر عد ذرات
Alpharad (a'Haydrae)	المرد
Alpha Radiation	عد اشعاع
Alpha rays	عد شعاعیں
Alphatron	عد ٹرون
Alphecca (Coronae Borealis)	الفکہ ـ نیر الفکہ
Alpheratz (Sirrah)	الفرس ـ سرۃ الفرس
Alphirk (Alferk or Cepha)	الفرق
Alrai	الراعی
Alruceabah	الرکبہ
Alshain (Aquilae)	الشاہین ـ عنق العقاب
Altāir	الطائر
Altaite	الطیت

Alkali	قل
Alkaline	قلوی
Alkaloid	قليا سا
Alkalurops (Bootes)	الكلوروبس
Alkes (a' crater)	الكاس
Allobar	غیر خط ـ غیر خطی
Allochromatic	غیر رنگی
Allomorphic	غیر وضعی
Allomorphism	غیر وضعیت
Allotrope	بہروپ
Allotropic	بہروپی
Allotropism	بہروپیت
Allotropy	بہروپ
Allowed Transition	جائز عبور
Alloy	بهرت ـ ملوان دهات ـ ملدهات
All-pass network	همه گذار حالی
Alluminium	ایلومینیم
Almack	عناق الارض ـ العناق
Almagest	المجسطی
Almanac (Nautical)	تقویم (بحری)—منہاج السنوی ـ زیج
Alnico	الیکو الومنیم ـ نکل، تانبہ اور بہرت)
Almucantar	المقنطر
Almucantars	المقنطرات

Algebraic curves	الجبری منحنیات
Algebraic Equivalent	الجبری معادل
Algebraic Notation	الجبری ترقیم
Algebraic Number	الجبری عدد
Algebraic Form	صورت جبریہ ـ الجبری صورت
Algebraic signs	الجبری علامات
Algebraic sum	الجبری مجموعہ
Algeiba	الجبا ـ جبہ
Algenib (Pegasi)	الجنب الفرس
Algol	الغول
Algores (Corvi)	الغراب
Algomaiza	شعری غمیصا ـ شعری شامی
Alhabor (Sirius)	عبور ـ شعری یمانی
Alhaiot	العیوق
Alhena	الهنعه
Alidade	العضاده
Alignment	خط بندی ـ صف بندی
Aliore (Alcor)	سہا
Alioth	الیاتہ ـ للیہ
Aliquot Part	عاد حصہ
Aliter	متبادل
Alive or live (wire)	زندہ (تار)
Alkaid (Alked)	القائد

Aish	دب اکبر
Alabsatrine process	الباسترین طریقه
Aladfar	الاظفار
Alankabuth	العنکبوت
Alarm	گجر
Alarm bell	گجر گهنٹی
Albedo	درجة البیاض
Albireo cygni	منقار الدجاجه
Albumin	البومین
Alchemb (Al-kemb)	مرفق
Alchiba (Alkhiba; Alkeba)	الخبا
Alcohol	الکوحل
Alcoholometer	الکوحل پیما
Alcoholometry	الکوحل پیمائی
Alcomax	الکومیکس
Alcor (80 Ursa Major)	الخوار
Alcyone	وسط الثریا ـ السیوفی (القیوفی)
Aldebaran (Bull's eye)	الدبران
Alderamin (a Cephei)	الذراع الیمین
Alfeta	نیرالفکه
Algebar (Al-jebar)	الجبار
Algebra	الجبرو المقابله ـ الجبرا
Algebraic	الجبری

Air-monitor	ہوانگراں
Air-oven	ہوا تنور
Air-plane	ہوائی جہاز
Air-plant	ہوا کارخانہ
Air-port	طیران گاہ ۔ ہوائی اڈہ
Air-pump	ہوا پمپ
Air-receiver	ہوا گیرندہ
Air-route	ہوائی راستہ
Air-screw	ہوا پیچ
Air-ship	طیارہ
Air-speed	ہوا رفتار
Air-speed meter	ہوائی رفتار پیما
Air-standard cycle	ہوا معیاری دور
Air-standard efficiency	ہوا معیاری استعداد
Air-surveying	ہوائی مساحت
Air-thermometer	ہوائی تپش پیما
Air-tight	ہوا بند
Air-value	ہوائی قیمت
Airwater tank	باد آبی ٹنکی ۔ ہوابی ٹنکی
Air-worthy	قابل پرواز
Airy-points	ایری نقطے
Airy's integral	ایری کا تکملہ

Air-core cable	ہوا قلب تار
Aircraft	ہوائی جہاز ۔ طیارہ
Air current	ہوائی رو
Air-damped	ہوا مدھم
Airdamping	ہوا سے مدھم کرنا
Air-drain	ہوا نالی
Air-ejector	ہوا پھینک
Air-engine	ہوا انجن
Air-exhauster	ہوا خلا کار
Airfoil	ہوا پترا
Air frame	ہوا ڈھانچہ
Air-fuel ratio	ہوا ایندھن تناسب
Air-gap	ہوا فصل
Air-gap torsion meter	ہوا فصل مڑور پیما
Air-gate	ہوا باب
Air-grating	ہوا جالی
Air Injection	ہوا پچکاری
Air Insulation	ہوا محجوری
Air-lift pump	ہوا داب پمپ
Air liquid surface	ہوا مائع سطح
Air-lock	ہوا قفل
Air-manometer	ہوا داب پیما
Air-meter	ہوا پیما

Aggregate recoil	مجموعی دار جست
Aggregation	مجموعہ ۔ اجتماع
Agitation	ہیجان
Agitation, Molecular	سالمی ہیجان
Agonic (Line)	لازاویہ (خط)
Agonics	لازاوئے (خطوط)
A. H. M.	ا ۔ س ۔ پ
(Ampere Hour Meter)	(ایمپیر ساعت پیما)
Air-bell	ہوا گھنٹی
Air-blast	ہوا جھکڑ
Air-brake	ہوا بریک
Air-brake switch	ہوا بریک کھٹکا (سوئچ)
Air-calorimeter test	ہوا حرارہ پیما جانچ
Air-cell	ہوا خانہ
Air-cleaner	ہوا صاف
Air-compressor	ہوا داب
Air-condensor	ہوا مکثفہ
Air.conditioned	ہوا سدھارا
Air-conditioning	ہوا سدھار
Air-conduction	ہوا ایصال
Air-cooled engine	ہوا سرد انجن
Air-cooling	ہوا تبریدی

Aerostat	هوا قرار
Aerostatic	هوا سکونی
Aerostatics	هوا سکونیات
Aether (Ether)	ایثر
Aethrioscope	ایثربین ۔ ایثری تپش پیما
Affine	مربوط
Affinity	الف
After-burner	پس مشعل
After-burning	پس احتراق
After-colours	پس رنگ
After-cooler	پس بارد
After-effect	پس اثر
After-flow	پس بہاؤ
After-glow	پس دمک
After-image	پس شبیہہ
Agate	عقیق
Age	عمر ۔ زمانہ
Age Equation	مساوات عمر
Aging	ضعیفی
Agent	کارندہ
Agglomerate	انباشتہ
Agglomeration	انباشتگی
Aggregate	مجموعہ

Aerial, Twin	توام هوائیه
Aerial, Umbrella	چھتری هوائیه
Aeral, Vertical	عمودی هوائیه
Aerial Screen	هوائیه پرده
Aerobatics	هوائی کرتب
Aerodrome	طیران گاه ـ هوائی اڈہ ـ عطار
Aerodynamics	هوا حرکیات
Aerodyne	هوا حرکی
Aerofoil	هوا پترا
Aerograph	هوا نگار
Aerolite	سنگباد
Aerology	هوائیات
Aerometeorograph	هوائی فضا نگار
Aerometer	هوا پیما
Aerometry	هوا پیمائی
Aeronaut	هوا بدر
Aeronautical Engineering	هوائیاتی انجینیری
Aeronautics	هوا بازی
Aerophane	هوا ریشمی جالی
Aerophone	هوا فون
Aeroplane	طیارہ ـ هوائی جهاز
Aeroplane Effect	هوا جهازی اثر
Aerosiderrite	آهنی شهابیه

Advection	ناحمل - غیر حمل
Advisable solution	قابل قبول حل
Adynamic	نا حرکی
Aeolian (Tones)	ایولی (سر)
Aeolight	ایولی نور - ایولی روشنی
Aeolopile	بھاپ چکر - ایلوپائل
Aeolotropic	ناہم اطراف
Aeolotropism	ناہم اطرافیت
Aeolotropy	ناہم اطرافی
Aerate	ہوا میزی (ہوا آمیزی)
Aerated	ہوا میزہ
Aerated water	ہوا میز پانی
Aerater	ہوا میز
Aeration	ہوا میزی
Aerial	ہوائیہ
Aerial, Balanced	متوازن ہوائیہ
Aerial, Directional	سمتی ہوائیہ
Aerial Frame	ہوائیہ چوکھٹا
Aerial, Horizontal	افقی ہوائیہ
Aerial, Multiple	کثیری ہوائیہ
Aerial, Receiving	گیرندہ ہوائیہ
Aerial, Sausage	استوانی ہوائیہ
Aerial, Transmitting	ترسیلی ہوائیہ

Adherence	چپکاؤ ۔ وابستگی
Adhesion	چپک
Adhesive	چپکواں
Adiabatic	حرنا گذار
Adiabatic curve	حرنا گذار منحنی
Adiabatic demagnetisation	حرنا گذار مقناربائی
Adiactinic	شعاع ناگذار
Adiathermanous	حرنا گذار
Ad-ion	جبذ رواں
Adjacent	متصل ۔ متصلہ
Adjoint	شریک
Adjustable	درستی پذیر
Adjusting Screw	درستی پیچ
Adjustment	درستی ۔ ترتیب ۔ اصلاح ۔ تطبیق
Admissible	جائز ۔ قابل قبول
Admissible values	جائز قیمتیں ۔ قابل قبول قیمتیں
Admittance	قبولیت
Adsorb	جبذ کرنا
Adsorbate	جبذ شدہ
Adsorbent	جبذ گر ۔ جابذ
Adsorption	جبذ
Advantage	مفاد

Activation	عمل کاری
Activator	عمل کار
Active	عامل
Active Centre	عامل مرکز
Active Deposit	عامل مطروحہ
Active Transducer	درق صوتیاق عامل
Active Voltage	عامل وولٹیج
Activity	عاملیت
Acubene	دیرالسرطان
Acute (angle)	حادہ (زاویہ)
Acute-angled Triangle	مثلث حادۃ الزاویہ
Adamantine compound	الماسی مرکب
Adaptability	مطابقت پذیری
Adaptable	مطابقت پذیر
Adaptation	مطابقت
Adapter	قمل
Adara (Conis Majoris)	عدرا
Adatom	حجوہر (جذب جوہر)
Add	جمع کرنا
Addition	جمع
Additive (Property)	جمعی (خاصیت)
Additivity	جمعیت
Adhere	چپکنا

Acoustic pendulum	صوتی لٹکن - صوتی پنڈولم
Acoustic pick - up	صوتی بردارہ
Acoustic radiator	صوتی اشعاع گر
Acoustic radiometer	صوتی اشعاع پیما
Acoustic reactance	صوتی تعامل گری - صوتی رد عملیت
Acoustics	صوتیات
Acoustic scattering	صوتی انتشار
Acoustic shadow	صوتی سایہ
Acoustic stiffness	صوتی صلابت
Acoustical image	صوتی تمثال - صوتی شبیہ (خیال)
Acrab	عقرب
Acromical	نجوم تابع
Act	عمل
Actinic (Rays)	کرنی (شعاعیں)
Actinide series	ایکٹینی سلسلہ - شعائی سلسلہ
Actinometer	شعاع پیما
Actinometry	شعاع پیمائی
Actinium (Ac)	ایکٹینیم (Ac)
Acting	عاملہ
Acting force	قوت عاملہ
Action and reaction	عمل اور رد عمل
Action radius	عمل کا نصف قطر

Achromatic Locus	بے رنگ طریق
Achromatic Point	بے رنگ نقطہ
Achromatic Prism	بے رنگ منشور
Achromatic Stimulus	بے رنگ تحریک
Achromatic Threshold	بے رنگ دہلیز
Achromatism	بے رنگی
Acid	ترشہ
Acidometer	ترشہ پیما
Acid proof	ترشہ روک ۔ ترشہ حاجب ۔ ترشہ رد
Aclinal	افقی
Aclinic (Line)	بے میلان (خط)
Acolyte	تابع
Acoustic (al)	صوتی ۔ صوتیاتی
Acoustic Bridge	صوتی پل
Acoustic Capacitance	صوتی گنجائش
Acoustic cloud	صوتی بادل
Acoustic filter	صوتی تقطیر
Acoustic grating	صوتی جالی
Acoustic impedence	صوتی مقاومت
Acoustic inertance	صوتی جمودت
Acoustic Interferometer	صوتی تداخل پیما
Acoustic mode	صوتی طریقہ ۔ صوتی طرز

Access	رسائی
Accessible	رسا پذیر
Accessible Terminal	رسا پذیر سرا
Accessories	لوازمات ـ متعلقات
Access Time	وقت رسا
Accidental (Error)	اتفاق (خطا)
Accidental Degeneracy	اتفاق فساد
Accommodating Power	توفیقی طاقت
Accommodation	توفیق
Accommodation Co-efficient	توفیقی سر
Accommodation, Loss of	نقصان توفیق
Accommodation, Ocular	بصری توفیق
Accumulation	ذخیرہ ـ اجتماع
Accumulation Point	نقطۂ اجتماع
Accumulator	جامع حاسب ـ ذخیرہ گر ـ برق ذخیرہ
Accuracy	صحت
Accurate	صحیح
Acherner	آخر النہر
Achromat	بے رنگہ
Achromatic	بے رنگ
Achromatic Combination	بے رنگ اجتماع
Achromatic Fringes	بے رنگ حاشئے
Achromatic lens	بے رنگ عدسہ

Abvolt	مطلق وولٹ ۔ مطوولٹ
A. C.	ب ۔ ر (بدلتی رو)
Acarnar	آخر النہر
A. C. Bridge	ب ۔ ر ۔ پل
Accelerate	سرعتانا ۔ سرعت دینا
Accelerating	سرعتی
Accelerating chamber	سرعتی خانہ
Accelerating Electrode	سرعتی برقیرہ
Accelerating Tube	سرعتی نل
Acceleration	سرعت ۔ اسراع
Acceleration, Angular	زاویائی اسراع
Acceleration due to gravity (g)	اسراع بجاذبۂ ارض (حا)
Acceleration, Instantaneous	فوری اسراع
Accelerative	سرعتی
Accelerator	سرعت گر ۔ مسراع
Accelerator, Linear	طولی سرعت گر
Acceleratory	سرعتی
Accelerometer	سرعت پیما
Accentuation	تاکید ۔ تشدید
Acceptor	پذیرندہ ۔ قبولندہ ۔ لین ہار
Acceptor Energy Level	پذیرندہ سطح توانائی
Acceptor Impurity	پذیرندہ لوث

Absorption Edge	جذبی کنارہ
Absorption Exponential	جذبی قوت نما
Absorption Factor	جذبی جزو
Absorption Index	جذبی نمائندہ
Absorption limit	جذبی انتہا ـ جذبی حد
Absorption loss	جذبی زیاں
Absorption Mesh	جذبی جالی
Absorption Meter	جذب پیما
Absorption Modulation	جذبی کمیشی
Absorption, Selective	جذب انتخابی
Absorption Spectrum	جذبی طیف
Absorption Trap	جذبی پھندا
Absorption Unit	جذبی اکائی
Absorption Wavemeter	جذبی موج پیما
Absorptive	جذبی
Absorptive Power	جذبی طاقت
Absorptivity	جذبیت
Absorptivity, Optical	نوری جذبیت
Abstract	مجرد
Abstract quantity	مجرد مقدار
Absurd	مہمل
Abundance	فراوانی ـ وفور
Abundance ratio	وفوری نسبت

Absolute Pyrheliometer	مطلق حراری شمس پیما
Absolute Scale	مطلق پیمانہ
Absolute Temperature (T)	مطلق تپش (ت)
Absolute Term	مطلق رقم
Absolute Units	مطلق اکائیاں
Absolute Value	مطلق قیمت
Absolute Zero	مطلق صفر
Absorbance	جاذبیت
Absorbancy	جاذبیت
Absorbed	جذب شدہ
Absorbed rays	جذب (شدہ) شعاعیں
Absorbent	جاذب
Absorber	جذب کار
Absorbtance	جذبی قدر
Absorbtiometer	جذب پیما
Absorption	جذب
Absorption (Extinction)	امتصاص
Absorption Band	جذبی بند
Absorption Cell	جذبی خانہ
Absorption Co-efficient	جذبی سر
Absorption Curve	جذبی منحنی
Absorption, Dielectric	برق گذاری جذب
Absorption Discontinuity	جذبی عدم تسلسل

Abney Mounting	ایبنی ترتیب
Abnormal	خلاف معمول ـ غیر معمولی
Abnormal glow	خلاف معمول دمک
Abnormal reflection	خلاف معمول انعکاس
Abohm	مطلق اوهم ـ مطلوهم
Abraded	گھسا ہوا
Abrasion.	گھساؤ
Abrasive	گھسنے والا
Abridged Notation	مختصر ترقیم
Abscissa	فصلہ
Absolute	مطلق
Absolute ampere	مطلق امپیر
Absolute Convergence	مطلق تقارب
Absolute Convergent	مطلق متقارب
Absolute Divergence	مطلق تباعد ـ مطلق انفراج
Absolute Divergent	مطلق متباعد ـ مطلق منفرج
Absolute Electrometer	مطلق برق پیما
Absolute Galvanometer	مطلق گیلون پیما
Absolute Humidity	مطلق مرطوبیت
Absolute Integrable	مطلق تکمل
Absolute Integral	مطلق تکملہ
Absolute Magnitude	مطلق قدر
Absolute Motion	مطلق حرکت

Abaxial	بدر محوری
Abbe Condenser	ایبے مکثفہ
Abbe Criterion	ایبے معیار
Abbe number	ایبے عدد
Abbe refractometer	ایبے انعطاف پیما
Abbe Sine Condition	ایبے جیبی شرط
ABC	خ ۔ ت ۔ ن
(automatic brightness control)	(خودکار تنویرناظم)
Abcoulomb	مطلق کولمب ۔ مطکولمب
Aberration	کجروی ۔ ضلالت
Aberration, Angle of	کجروی کا زاویہ
Aberration, Chromatic	لونی کجروی
Aberration, Diurnal	یومی کجروی
Aberration, Least Circle of	کجروی کا کمترین دائرہ
Aberrationless System	ناکجرو نظام
Aberration, Lunar	قمری کجروی
Aberration of light	نوری کجروی
Aberration, optical	نوریاتی کجروی
Aberration of Stars	ستاروں کی کجروی
Aberration, Spherical	کروی کجروی
Abney Calorimeter	ایبنی حرارہ پیما
Abney Colour Sensitometer	ایبنی لونی حس پیما
Abney Effect	ایبنی اثر

A

A (note)	دھا (سر)
A (Position of Gauss)	ا (گاؤس کا مقام)
A (Absolute Temp)	م (مطلق تپش)
A (angle)	ز (زاویہ)
A (area)	ر (رقبہ)
A (amplification)	ت (تکبیر)
A (Refracting angle of a prism)	ا (انعطاف)
A° (A.° U.)	ان
a (acceleration)	س (اسراع)
a (sound absorption coefficient)	جہ
a (absorptive power)	جہ
a (van der walls constant)	مہ
a (amplitude)	حہ (حیطہ)
a (Bohr's radius)	ن (بوہر کا نصف قطر)
a (alpha)	عہ
a (radius)	ن (نصف قطر)
a (side)	ض (ضلع)
Abacus	گن تارا
Abampere	مطلق امپیر۔ مطامپیر۔ مطمپیر

مستحق ہیں ، خصوصیت کے ساتھ جناب وہاء الدین ، جناب کاظم مہدی ، جناب محمد حفیظ الرحمن ، جناب عظمت علی خاں اور جناب ہارون نجمی صاحبان جنھوں نے مشورے دئے ، اعتراضات کیے اور پروف دیکھنے کی زحمت گوارا کی ۔ خدا انھیں خوش رکھے ۔

آفتاب حسن
کراچی ۱۹۵۹ء

اور اسی رفتار سے ان کی نئی اصطلاحیں بھی وجود میں آرہی ہوں ۔ تو کسی بھی کتاب میں ان سب کو مختتم طور پر کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے ؟ اس لئے یہ دعوی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہر لحاظ سے مکمل ہے ۔ دعوے کے ساتھ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہماری موجودہ ضروریات کے لئے یہ کتاب کافی ہے ۔ پھر بھی جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کا یہ انتظام کیا گیا ہے کہ اس میں ہر صفحہ پر ایک کالم سادہ چھوڑ دیا گیا ہے ۔ تاکہ اہل علم اس میں اضافے کر سکیں ۔ ایک مقصد اس سے یہ بھی ہے کہ ماہرین فن و زبان جہاں کہیں موجودہ اصطلاحوں سے اتفاق نہ فرمائیں اور کوئی بہتر اصطلاح تجویز کر سکیں تو بلا تکلف کریں اور اپنے مشوروں سے ہمیں مستفید فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں اصلاح ہو سکے ۔

یہاں پر یہ بیان کردینا بھی ضروری ہے کہ اس فرہنگ کی اصطلاحیں سالہاسال سے استعمال ہو رہی ہیں ۔ ان میں کا بہت سا سرمایہ ہمیں عربوں سے ترکے میں ملا ہے مثلاً فلکیات میں اجرام سماوی کے نام اور بیشتر اصطلاحیں۔ اسی طرح ہم ریاضیاتی اصطلاحوں میں بہت حد تک عرب ریاضی دانوں کے مرہون منت ہیں۔ گو اس کا بہت بڑا حصہ جو اردو میں مستعمل ہے اردو دانوں نے بنایا ہے ۔ یہ اور اس کے ساتھ طبیعیات کی بیشتر اصطلاحیں وہ ہیں جو ۱۹ ویں صدی کے وسط سے وضع ہونا شروع ہوئیں اور ان کی تکمیل صحیح معنی میں عثمانیہ یونیورسٹی اور اس کے دارالترجمہ میں ہوئی۔ ویسے انفرادی کام بھی اس سلسلے میں کافی ہوا ہے ۔

ان تمام قدیم اور مروج اصطلاحوں کو یکجا کرکے' نظرثانی کے ساتھ ساتھ، مضامین کی موجودہ کیفیات کے مدنظر' ان میں حسب ضرورت خفیف تبدیلی کردی گئی ہے ۔ جتنی جدید اصطلاحیں اس فرہنگ میں ہیں وہ نئی وضع شدہ ہیں ۔

یہاں پر ان احباب کا ذکر ضروری ہے جن کی توجہ اور امداد سے یہ فرہنگ مکمل ہو سکی ۔ اردو کالج کے نوجوان اساتذہ بطور خاص شکریے کے

پاکستان کے بعض سرکاری اداروں کی طرف سے بھی شائع ہوئی ہیں - لیکن صورت حال یہ ہے کہ اول تو اس قسم کی فرہنگیں تمام مضامین کے لئے تیار نہیں کی گئی ہیں اور جو ہوئی ہیں ان کی کم یابی اور نایابی کا یہ عالم ہے کہ تلاش پر بھی نہیں ملتیں اور ضرورت مندوں کو سخت دقت کا سامنا کرنا ہوتا ہے - اس کمی کا اثر سب سے زیادہ ان اداروں پر پڑتا ہے جہاں تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کا کام بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، مثلاً اردو کالج کراچی جہاں سائنس کی اعلی تعلیم اردو کے ذریعے دی جاتی ہے - مدرسوں کے علاوہ ان بیرونی ممتحنوں کو بھی مشکل پیش آتی ہے جو کراچی یونیورسٹی کے لئے سائنس کے امتحانی پرچے مرتب کرتے ہیں - موجودہ کوشش اسی کمی کو ایک حد تک پورا کرنے کے لئے کی گئی ہے -

طے یہ کیا گیا کہ اگر اصطلاحات کی ایسی بڑی فرہنگ کی تیاری ، جو تمام علوم پر حاوی ہو ، اس وقت ذرائع وسائل کی کمی کے سبب ، ممکن نہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ چند ایسے علوم کو جمع کردیا جائے جو آپس میں قریبی تعلق رکھتے ہوں - چنانچہ ضرورت اور اہمیت کے مدنظر پہلے طبیعیات، ریاضیات اور فلکیات کا انتخاب کیا گیا ہے - اور ان کی اصطلاحوں کو یکجا کرلیا گیا ہے - ان تینوں مضامین میں چولی دامن کا ساتھ ہے - طبیعیات اور فلکیات کی کوئی کتاب ریاضیاتی مسائل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی - اس طرح یہ فرہنگ ناظرین کو تین فرہنگوں کے استعمال سے آزاد کر دیتی ہے - اس میں نہ صرف یہ کہ تینوں علوم کے قدیم اور مروج اصطلاحوں کو جمع کردیا گیا ہے بلکہ ان جدید اصطلاحوں کا بھی اضافہ کردیا گیا ہے جو موجودہ زمانے میں طبیعی علوم کی بڑھتی ہوئی ترقی کے ساتھ وجود میں آتی جا رہی ہیں -

کسی کتاب کے متعلق یہ دعوی نہیں کیا جاسکتا کہ قطعی مکمل ہے اور اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں - یہی حال اس فرہنگ کا بھی ہے- اس میں بہت سی خامیاں اور کوتاہیاں ہوں گی اور ظاہر ہے کہ جس کتاب کا تعلق ایسے زندہ علوم سے ہو جو دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہے ہوں

تعارف اشاعت اول

سلسلہ درس و تدریس کا ہو یا تصنیف و تالیف کا ، مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب مغربی علوم خصوصاً سائنس کو قومی زبان اردو کے ذریعے اپنانا ہوتا ہے - فنی اصطلاحیں مدرس اور مصنف کے راستے میں پہاڑ بن کر سامنے آتی ہیں - اور اس کے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہیں - اس لئے نہیں کہ ہماری زبان میں اصطلاحات موجود نہیں ہیں بلکہ اس لئے کہ موجودہ ہونے پر بھی یہ دستیاب نہیں ہوتیں - پتہ نہیں چلتا کہ ان کو تلاش کہاں کیا جائے - معمولی فرہنگیں ان سے خالی ہوتی ہیں۔ بڑی اور بظاہر مستند ''اردو - انگریزی' ڈکشنریاں بھی اس مقصد کے لئے بے کار ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں جو کچھ ہوتا، ہے ان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے -

یہ ایک حقیقت ہے کہ گو اردو زبان میں مختلف علوم و فنون کے درس تدریس کا سلسلہ کوئی سوا سو سال سے جاری ہے اور اصطلاح سازی بھی اسی وقت سے شروع ہوئی ہے اور بے شمار اصطلاحیں اس وقت تک وضع بھی ہوچکی ہیں لیکن ان میں سے بیشتر درسی اور فنی کتابوں ہی میں بند ہیں۔ ان سے عام استفادہ ممکن نہیں - فرہنگیں اول تو بہت کم ہیں، اور جو ہیں بھی وہ غیر مکمل اور ضرورت کے لئے بالکل ناکافی -

ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ ایک جامع لغت تیار کی جاتی جس میں تمام علوم و فنون کی اصطلاحیں یکجا کردی جاتیں۔ اس طرح لوگ مختلف فرہنگوں کی تلاش اور کتابوں کی ورق گردانی کی مصیبت سے بچ جاتے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اس سلسلے میں ابھی تک کوشش کیا ، سنجیدگی کے ساتھ غور بھی نہیں کیا گیا ہے - ہاں مختلف مضامین کی فرہنگوں کو شائع کرنے کی کوشش ، دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ اور انجمن ترقی اردو نے کی ہے - کچھ فرہنگیں

چلی جارہی ہے - یہ مانگ انگریزی اصطلاحات کے اردو مترادفات کی ہے ، اردو رسم الخط میں لکھی ہوئی انگریزی اصطلاحوں کی نہیں - اسی طلب کو پورا کرنے کے لیے یہ فرہنگ شایع کی جارہی ہے - ظاہر ہے کہ اس دس سال کے عرصے میں دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے ، خصوصاً سائنس کی ترقی کی تو کوئی حد اور انتہا نہیں رہی ہے - صنعتی اداروں اور تجربہ خانوں میں وہ ہماہمی ہے کہ خدا کی پناہ - علم آگے بڑھتا چلا جارہا ہے - نئے نئے الفاظ اور محاورات بنتے اور ایجاد ہوتے چلے جارہے ہیں - بعض مضامین کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ ان کے متعلق کتاب شایع ہوتے ہوتے بے کار ہوجاتی ہے کیوں کہ مضمون آگے بڑھ چکا ہوتا ہے - لکھنے والوں کے لیے نئے الفاظ کی فہرست بنانا بھی ایک کٹھن کام ہوتا چلا جارہا ہے - لیکن یہ کرنے کا کام ہے اور کیا جاتا ہے -

فرہنگ کی اس اشاعت میں بھی علم کی ترقی نمایاں ہے - پہلی اشاعت میں شائع شدہ اصطلاحات کی تعداد پونے سات ہزار کے قریب تھی ، اس اشاعت میں یہ تعداد بڑھ کر دس ہزار سے زیادہ ہوگئی ہے - اس کے باوجود اس کا دعویٰ نہیں ہے کہ اس میں ساری اصطلاحیں آگئی ہیں- یہ دعویٰ تو کسی بھی لغت کے لیے کیا نہیں جاسکتا، ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نصابی اور فنی ضروریات کی شاید ہی کوئی اصطلاح ہو جو اس میں نہیں ہے -

ہمیں امید ہے کہ مصنفین، مترجمین اور مدرسین اس فرہنگ کو مفید پائیں گے اور ہمیں اپنے کارآمد مشوروں سے نوازتے رہیں گے -

آفتاب حسن

کراچی : ۳۱ مئی ۶۹

کافی نقصان پہنچا اور اس کی رفتار متاثر ہوئی۔ اس کے باوجود تحریک نہیں رکی، وہ آگے بڑھتی گئی۔ کراچی یونیورسٹی نے ۱۹۶۱ع میں طے کیا کہ گریجویٹ کلاسوں سے شروع کرکے اردو کو ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے آگے بڑھایا جائے اور رفتہ رفتہ تمام فنی، ادبی اور سائنسی تعلیم اسی زبان میں دی جانے لگے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور اردو میں درسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کراچی یونیورسٹی نے اپنے شعبۂ تصنیف و تالیف و ترجمہ کو اور زیادہ مستحکم کیا اور اس کے ذمے یہ کام ہوا کہ سب سے پہلے اردو میں سائنسی اور علمی اصطلاحات کی لغتیں تیار کی جائیں اور انہیں جلد از جلد شایع کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام علوم کی درسی کتابیں تالیف اور ترجمہ کروائی جائیں اور انہیں شایع کرکے اردو کو اس لائق بنایا جائے کہ اس میں درسی کتابوں اور اصطلاحات کی کمی کی شکایت نہ رہے۔

ہمیں نہایت خوشی ہے کہ "فرہنگ اصطلاحات طبیعیات، ریاضیات، اور فلکیات" کے اس نئے ایڈیشن کو اس شعبے نے اپنے ذمہ لیا اور اسے پروگرام میں شریک کرلیا اور اسی پروگرام کے تحت اس کو شائع کیا جارہا ہے۔

ارباب اقتدار کی سرد مہری کے باوجود کراچی یونیورسٹی کے اس فیصلے کا اثر نہایت دور رس ثابت ہوا۔ ایم۔ اے اور ایم۔ ایس سی میں لڑکے اردو میں جوابات دینے لگے اور پی ایچ۔ ڈی کے مقالے تک اردو میں لکھے جانے لگے۔ کراچی سے یہ تحریک آگے بڑھ کر مغربی پاکستان میں، زرعی یونیورسٹی لائل پور اور پنجاب یونیورسٹی لاہور پہنچی اور ان دونوں جامعات میں اردو کو ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے اور امتحانات میں استعمال کرنا شروع کردیا گیا۔ ان دونوں جامعات نے کراچی کی طرح تصنیف و تالیف کے ادارے قایم کیے جس میں اصطلاحیں اور کتابیں تیار اور شائع ہونے لگیں۔ یہ عمل ہر جگہ جاری ہے اور پھیلتا جارہا ہے اور اس کی ترقی ہوتی جارہی ہے۔

ظاہر ہے تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں کتابوں کی تصنیف و تالیف میں بھی اضافہ ہورہا ہے اور علمی اور فنی اصطلاحات کی مانگ بڑھتی

دیباچہ اشاعت دوم

الحمداللہ کہ "فرہنگ اصطلاحات طبیعیات ، ریاضیات اور فلکیات" کا دوسرا ایڈیشن شائقین علم و فن کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے - پہلا ایڈیشن ۱۹۵۹ ع میں شائع ہوا تھا ، اب ۱۹۶۹ ع میں اسے دس سال ہو چکے ہیں - اس عرصے میں "تعلیم بہ بذریعہ قومی زبان" کی کشتی سیاست کے بنجدھار میں ھچکولے کھاتی رہی- ادھر اصحاب علم و فن اور ماہرین تعلیم اسے آگے بڑھانے اور منزل مقصود پر پہونچانے کی سعی بلیغ کرتے رہے، ادھر ارباب حل و عقد، اپنی مصلحتوں کے مدنظر، اس کے راستے میں انگنت رکاوٹیں اور بےشمار مشکلات پیدا کرتے رہے - کبھی یہ فرمایا گیا کہ اردو دریعہ تعلیم کے معنی انگریزی کو چھوڑ دینا ہے جو علمی خودکشی کے مترادف ہے - کبھی یہ کہا گیا کہ اگر اپنی زبان میں تعلیم دینا تسلیم بھی کرلیا جائے تو اصطلاحات کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے، انگریزی اصطلاحات من و عن قبول کرلی جائیں- بہ الفاظ دیگر فرہنگ اصطلاحات کی کیا ضرورت ہے - اس سے بحث نہیں کہ زبان اسے برداشت بھی کرسکے گی یا نہیں، اس سے بحث نہیں کہ پچھلے سوا سو سال سے ہمارے آباو اجداد کیا کرتے چلے آئے ہیں ، اس سے بحث نہیں کہ یہ کوشش پہلے بھی کی جاچکی ہے اور ناکام رہی ہے ، اس سے بحث نہیں کہ یہ کھچڑی زبان کس قسم کا سائنسی ادب پیدا کرے گی اور قبول عام اسے کس طرح حاصل ہوگا - جب کسی کام کو روکنا ہوتا ہے، یا روکنا نہیں تو کم از کم سست کردینے کا ارادہ ہوتا ہے، تو بے شمار مشورے اور بے حساب رائیں دی جاتی ہیں - یہ سلسلہ چلتا رہا -

قومی زبانوں کو بہ حیثیت ذریعہ تعلیم استعمال کرنے کی مخالفت کرنے والوں کو الحمداللہ کامیابی تو نصیب نہیں ہوئی لیکن یہ واضح ہے کہ اس تحریک کو

اشاعت دوم . جون ۱۹۶۹

تعداد ۱۰۰۰

قیمت .. قیمت: مجلد -/۲۲ روپے

طابع : حاجی محمد کراست اللہ عثمانی ، ٹکنیکل پرنٹرز ، کوچہ حاجی عثمانی، میکلوڈ روڈ ، کراچی ۔

ناشر: ناظم ، شعبۂ تصنیف و تالیف و ترجمہ ، کراچی یونیورسٹی، کراچی۔

فرہنگِ اصطلاحات

طبیعیات • ریاضیات
فلکیات

مرتب

آفتاب حسن

شعبۂ تصنیف و تالیف و ترجمہ
کراچی یونیورسٹی، کراچی

فرهنگ اصطلاحات

طبیعیات

ریاضیات

فلکیات